

اسلامک اسٹڈیز ہوم اسکولنگ کے لیے **ABM**

ISLAMIC STUDIES

Syllabus For

HOME SCHOOLING

For Children & Parents to build an Islamic Environment at Home.....



برائے نصاب: صباحی و مسائی کتب، اسلامی اسکولس، عصری اسکولس
عادت کے طور پر 7 اور 8 سال کے بچوں کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔

Also Useful for Children Aged 7 & 8



Author: شیخ ارشد بشیر عمری مدنی سلمہ اللہ

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, K.S.A), M.B.A.
Founder & Director of AskIslamPedia.com, Chairman: Ocean The ABM School, Hyd
+91-92906 21633 (WhatsApp Only)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جملة الحقوق محفوظة لدى مؤسسة الطبع

All Rights Reserved with Publisher©

AskIslamPedia.com - Academic Wing
under the supervision of

شيخ ارشد بشير عمري مدني سلمه الله

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Fazil (Madina University, K.S.A), M.B.A.
Founder & Director of AskIslamPedia.com
Chairman - Ocean The ABM School, Hyd.

Islamic Studies

Edition 2021

Publisher & Printer
ABM Print Time
+91-99890 22928
abm.printtime@gmail.com

For Details Contact
Br. Mansoor
+91-93909 93901
mansoor.dawah@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد:

بلاشک و شبہ یہ کتاب ہر گھر اور ہر فرد کی ضرورت ہے۔

مرحلہ نظریہ نصاب:

دین اسلام بہت ہی آسان اور خیر خواہی پر مبنی دین ہے لیکن اس کے باوجود جدید نسل اپنے دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ آسان فہم انداز میں بچوں تک علم دین پہنچائیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر الحمد للہ یہ دینی نصابی کتابی سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔

مرحلہ تیاری نصاب:

ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس میں قرآن مجید کی مختصر سورتوں، چھوٹی چھوٹی اور جامع احادیث، قصص، نصیحتوں، آداب و اذکار اور ساتھ ہی تجوید کے قواعد سے جس کتاب کو مزین کیا گیا ہو۔ یہ کتابی سلسلہ بچوں کی عمر کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلہ میں پانچ تا نو سال کے بچوں کے لیے تعلیمات دینیہ کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ان شاء اللہ اس سیریز کو +23 تک لے جانے کا ارادہ ہے۔

یہ کتاب کس کے لیے:

ان شاء اللہ اس سیریز سے مندرجہ ذیل شعبے و افراد استفادہ حاصل کر سکتے ہیں:

1. یہ کتاب نہ صرف بچوں بلکہ ہر قسم کے افراد کے لیے مفید ہے جو اسلامی تعلیمات سیکھنے کی بہترین شروعات کرنا چاہتے ہیں۔
2. ڈاکٹرس کے لیے بھی مفید ہے جو نبوی تعلیمات کی روشنی میں نبوی طرز زندگی اپنا کر صحت مند زندگی عام کرنا چاہتے ہیں۔
3. یہ کتاب ٹیچرس کے لیے بڑی مفید ہے جو درس کے دوران بچوں کو دینی آداب سکھانا چاہتے ہیں۔
4. یہ کتاب ان اسکالرس و دعاة کے لیے جو حوالے دینے کا اہتمام کرتے ہیں کافی مفید ہے کیونکہ اس میں بنیادی تعلیمات حوالوں کے ساتھ موجود ہے۔
5. یہ کتاب سوشل ورکرس کے لیے بھی مفید ہے جو نبوی تعلیمات کے ذریعہ سماج میں سدھار لانا چاہتے ہیں۔

6. یہ کتاب پولیس اور وکلاء کے لیے بھی ضروری ہے جو جرائم کی روک تھام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبوی تعلیمات کو عام کر دیا جائے۔
7. بوڑھے حضرات جنہوں نے اب تک شروعات نہ کی ہو لیکن retirement age کے بعد بہترین شروعات کرنا چاہتے ہیں، یہ کتاب ان کے حق میں بھی کافی مفید ہے۔
8. ریسرچ اسکالرس کے لیے جو بچوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔
9. سیکالوجسٹ کے لیے جو بچوں کی سیکالوجی پڑھنا چاہتے ہیں۔
10. مصلحین و مکاتب کے مدیر و مساجد کے مہتممین جو بچوں کے لیے صبحی و مسائی حلقے قائم کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سیریز syllabus کی حیثیت رکھتی ہے۔
11. عصری اسلام اسکول کے لیے، عمر کے اعتبار سے classes میں رکھا جاسکتا ہے۔
12. سیکولر اسکولس میں مسائی حلقہ کے لیے۔
13. اسلامی مدارس کے لیے بھی مفید ہے۔
14. خطیب حضرات جو کم وقت میں احادیث کے صحیح حوالے نقل کرنا چاہتے ہوں۔
15. گھروں میں مائیں جو خود یاد کرنا اور بچوں کو یاد کروانا چاہتی ہیں۔
16. نانی، دادی، نانا، دادا اپنے نواسوں اور پوتروں کو آیات و احادیث یاد کروانا چاہتے ہوں۔
17. ان شاء اللہ یہ کتاب ہر قسم کے انسان پر اثر کرے گی۔

مرحلہ مراجعہ عامہ:

اس کتاب کی تیاری کے بعد دینیات کے ماہرین علماء کرام سے مراجعہ کرایا گیا جو دینی علوم اور بچوں کی

نفسیات سے واقف ہیں۔

مرحلہ مراجعہ خاصہ:

کتاب کو مزید منقح اور منظم بنانے کے لئے پھر ایک مرتبہ خصوصی مراجعہ کیا گیا، جس میں پانچ علما کی ایک کمیٹی ترتیب دے کر مکمل باریکی سے جائزہ لیا گیا۔ قرآن کا ترجمہ، آداب و احادیث کے حوالہ جات، اسلامی سوال و جواب اور دیگر عناوین پر کافی گہرائی سے جائزہ لیا گیا۔ امید کہ کوئی کمی باقی نہیں رکھی گئی پھر بھی عیب سے پاک تو صرف اللہ کی ذات ہے، بشر ہونے کے ناطے کچھ خامیاں رہ گئی ہوں تو اطلاع دے کر ممنون ہونے کا موقع دیں۔

مر اعل تامله:

الحمد لله به كتاب پائے تكميل كو پہنچ چكي هے۔ جو نئي نسل كو اپنے دين سے قريب كرنے كا اهم ذريعہ بن سكتي هے۔ هم اميد كرتے هیں كه اس سے بچوں كو خاطر خواه فائدہ هوگا۔ گھر ميں اسلامي ماحول پيدا كرنے ميں مدد ملے گی۔ ان شاء الله

هديه تشكر:

اس موقع پر ميں ان سب حضرات كا شكر به ادا كرنا چاهتا هوں جن كا اس نصاب كي تياري ميں كمل سا تهر رها جيسے شيخ عبد الله عمري، شيخ عبد الرحمن عمري مدني، شيخ نور الدين عمري، شيخ عثمان عمري، شيخ ماجد عمري، شيخ مجاهد عمري، جناب ذبيح الله وغير هم۔ ميں اس موقع پر اپنے مادر علمي جامعه دار السلام، عمر آباد، نائل ناڈو، انڈيا كو كيسے بھول سكتا هوں جس كے سايه عاطفت ميں ره كر تعليم و تربيت پانے كا حسين موقع ملا۔ اسي طرح جامعه اسلاميه مدينه منوره، سعودي عرب كو بهي فراموش كر نهيں كر سكتا، جس كے مجرب و نامور اساتذہ كي تربيت ميں ذہن كي ايك ايك كھڑكي كھلتی گئی۔ الله تعالى همارے اور ان سب كے ميزان حسنات كو ثقييل فرمادے۔ آمين ميں دعا گو هوں كه رب كريم هماري اس چھوٹی سي كاوش كو قبول فرمالے، جديد نسل اپنے دين سے آشنا هو اور اسلامي تعليمات كو اپني زندگي ميں ڈھال سكيں۔ آمين

والسلام

ارشاد بشير عمري مدني

فاؤنڈر اينڈ ڈائريكتور آسك اسلام بيڈيا

والدین کے لیے کچھ نصیحتیں

نیک اور صالح اولاد طلب کرنے کی دعائیں:

(الصافات: 100)

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ-

My Lord, Grant Me [A Child] From Among The Righteous.

اے میرے رب! مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔

Aye Mere Rab! Mujhe Nek-Bakht Aulaad Ata Farma.

(آل عمران: 58)

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

"My Lord, Grant Me From Yourself A Good Offspring. Indeed, You Are The Hearer Of Supplication."

اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔

Aye Mere Parwardigaar! Mujhe Apne Paas Se Pakizah Aulaad Ata Farma, Beshak Tu Dua Ka Sunne Waala Hai.

(الفرقان: 74)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا-

"Our Lord, Grant Us From Among Our Wives And Offspring Comfort To Our Eyes And Make Us An Example For The Righteous."

اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

Aye Hamare Parwardigaar! Tu Hame Hamaari Biwiyo Aur Aulaad Se Aankho Ki Thandak Ata Farma Aur Hame Parhezgaaro Ka Peshwa Bana.

(ابراہیم: 40)

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

My Lord, Make Me An Establisher Of Prayer, And [many] From My Descendants. Our Lord, And Accept My Supplication.

اے میرے پالنے والے! مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔

Aye Mere Paalne Waale! Mujhe Namaz Ka Paaband Rakh Aur Meri Aulad Se Bhi, Aye Hamare Rab Meri Dua Qabool Farma.

اپنے بچوں کو نظر بد اور شیطان کے شر سے حفاظت میں رکھنے کے لیے یہ دعا ان پر پڑھ کر دم کریں:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ . (صحیح بخاری: 3371)

'O Allaah! I Seek Refuge With Your Perfect Words From Every Devil And From Poisonous Pests And From Every Evil, Harmful, Envious Eye.'

”میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعہ، ہر شیطان سے، ہر زہریلے کیڑے (سانپ بچھو وغیرہ) سے اور ہر نظر بد والی آنکھ سے۔“

Mai Panaah Maangta Hoo Allah Ke Poore Kalimaat Ke Zariye, Har Shaitan Se, Har Zahreele Keede (Saans Bicho Waghaira) Se Aur Har Nazare Bad Waali Aankh Se.

اپنی اولاد کو قتل نہ کریں:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا . (بني اسرائيل: 31)

And Do Not Kill Your Children For Fear Of Poverty. We Provide For Them And For You. Indeed, Their Killing Is Ever A Great Sin.

اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔

Aur Muflisi Ke Khauf Se Apni Aulad Ko Na Maar Daalo, Unko Aur Tum Ko Ham Hi Rozi Dete Hain. Yaqeenan Unka Qatal Karna Kabeera Gunaah Hai.

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ . بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ . (التكوير: 8)

And When The Girl [who Was] Buried Alive Is Asked. For What Sin She Was Killed?

اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی؟

Aur Jab Zinda Gaadi Hui Ladki Se Sawaal Kiya Jaaega. Ke Kis Gunaah Ki Wajah Se Wo Qatal Ki Gae?

چھوٹے بچوں سے آپ ﷺ کا منہ مذاق کرنا بھی ثابت ہے:

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: "عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِِي، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ".

(صحیح بخاری: 77)

Narrated Mahmud Bin Rabi'a: when I Was A Boy Of Five, I Remember, The Prophet (ﷺ) Took Water From A Bucket (used For Getting Water Out Of A Well) With His Mouth And Threw It On My Face.

محمود بن الربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے یاد ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کھلی فرمائی، اور میں اس وقت پانچ سال کا تھا۔

Mahmood Bin Ar-rabee' Raziyallahu Anhu Fariat Hain: Mujhe Yaad Hai Ke Ek Martaba Rasoolullah Sallallaahu Alaihi Wasallam Ne Ek Dol Se Mooh Me Paani Le Kar Mere Chahre Par Kulli Farmaee, Aur Mai Us Waqt Paanch Saal Ka Tha.

لڑکیوں کی خصوصی پرورش پر فضیلت:

عن عقبه بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن، وأطعمهن، وسقاهن، وكساهن من جدته كن له حجاباً من النار يوم القيامة۔

(سنن ابن ماجه: 3669، صحيح)

Uqbah Bin Amir Said, I Heard The Messenger Of Allaah (ﷺ) Say: "Whoever Has Three Daughters And Is Patient Towards Them, And Feeds Them, Gives Them To Drink, And Clothes Them From His Wealth; They Will Be A Shield For Him From The Fire On The Day Of Resurrection."

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: جس شخص کی تین بچیاں ہوں اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ انہیں محنت کر کے کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔

Uqbah Bin Amir Raziyallahu Anhu Kahte Hain Ke Mai Ne Rasoolullah Sallallaahu Alaihi Wasallam Ko Farmaate Suna: Jis Shakhs Ki Teen Bachiyaa Ho Aur Wo Saabit Qadmi Ke Saath Unhe Mahnat Karke Khilaae Pilaae Aur Pahnaae To Wo Uske Liye Jahannam Se Rukaawat Ban Jaengi.

بچوں کو نماز، روزے اور دیگر عبادات کی عادت ڈالیں:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ".

(سنن ابوداؤد: 495، صحیح)

Narrated Abdullah Ibn Amr Ibn Al-'as: the Messenger Of Allaah (ﷺ) Said: Command Your Children To Pray When They Become Seven Years Old, And Beat Them For It (Prayer) When They Become Ten Years Old; And Arrange Their Beds (to Sleep) Separately.

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تمہاری اولاد سات سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو انہیں اس پر (یعنی نماز نہ پڑھنے پر) مارو، اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو۔“

Abdullah Bin Amr Bin Al-aas Raziyaallaahu Kahte Hain Ke Rasoolullah Sallallaahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya: Jab Tumhari Aulaad Saat Saal Ki Ho Jae To Tum Un Ko Namaz Padhne Ka Hukum Do, Aur Jab Wo Das Saal Ke Ho Jaein To Unhe Is Par (Yaani Namaz Na Padhne Par) Maaro, Aur Un Ke Sone Ke Bistar Alag Kardo.

عَنْ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِذٍ قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

(صحیح بخاری: 1960)

Narrated Ar-rubi' Bint Mu'awadh: "Since Then We Used To Fast On That Day Regularly And Also Make Our Boys Fast. We Used To Make Toys Of Wool For The Boys And If Anyone Of Them Cried For, He Was Given Those Toys Till It Was The Time Of The Breaking Of The Fast."

ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر بعد میں بھی (رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد) ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے۔ جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آجاتا۔

Rabee' Binte Mu'awwiz Raziyaallaahu Anha Ne Kaha Ke Phir Ba'd Me Bhi (Ramzan Ke Roze Ki Farziyat Ke Ba'd) Ham Us Din Roza Rakhte Aur Apne Bacho Se Bhi Rakhwaate The. Unhe Ham Oon Ka Ek Khilona De Kar Bahlaae Rakhte. Jab Koi Khaane Ke Liye Rota To Wahi De Dete, Yaha Tak Ke Iftaar Ka Waqt Aajata.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَفَعَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: "إِلْهَذَا حَجٌّ؟" قَالَ:

(سنن نسائي: 2648)

نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ."

It Was Narrated That Ibn 'Abbas Said: "a Woman Lifted A Child Up To The Messenger Of Allah And Said: 'is There Hajj For This One?' He Said: 'yes, And/ You Will Be Rewarded."

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھایا اور پوچھنے لگی:

کیا اس کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں (اس کا بھی حج ہے) اور تمہیں اس کا اجر ملے گا۔“

Abdullah Bin Abbas Raziyaallahu Anhuma Kahte Hai Ke Ek Aurat Ne Ek Bache Ko Nabi Akram Sallallaahu Alaihi Wasallam Ke Saamne Uthaaya Aur Pochne Lagi: Kya Is Ka Bhi Haj Hai? Aap Ne Farmaya: Haa (Iska Bhi Haj Hai) Aur Tumhe Iska Ajr Milega.

بچوں کو اسلامی آداب سکھاتے رہیں:

عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، فَمَا زِلْتُ

(صحیح بخاری: 5376)

تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ."

Narrated `umar Bin Abi Salama: I Was A Boy Under The Care Of Allah's Messenger (ﷺ) And My Hand Used To Go Around The Dish While I Was Eating. So Allah's Messenger (ﷺ) Said To Me, 'o Boy! Mention The Name Of Allah And Eat With Your Right Hand, And Eat Of The Dish What Is Nearer To You." Since Then I Have Applied Those Instructions When Eating.

عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور (کھاتے وقت) میرا

ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹے! بسم اللہ پڑھ لیا کرو، داہنے ہاتھ

سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے

مطابق کھاتا رہا۔

Umar Bin Salama Raziyallahu Anhu Bayaan Karte Hain Ke Mai Bacha Tha Aur Rasool Sallallaahu Alaihi Wasallam Ki Parwarish Me Tha Aur Khaate Waqt Mera Haath Bartan Me Chaaro Taraf Ghooma Karta. Isliye Aap Sallallaahu Alaihi Wasallam Ne Mujh Se Farmaaya Ke Bete! Bismillah Padh Liya Karo, Daahine Haath Se Khaaya Karo Aur Bartan Me Wahaa Se Khaya Karo Jo Jaga Tujh Se Nazdeek Ho. Chunaanche Uske Baad Mai Hamesha Usi Hidayat Ke Mutabiq Khaata Raha.

اولاد کے حقوق ادا کریں:

بأحضار الولد، وأتّب عمر الولد لعقوقه لأبيه، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟! قال: بلى، قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه، ويحسن اسمه، ويعلمه الكتاب أي: القرآن قال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئاً من ذلك؛ أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلاً، ولم يعلمني من الكتاب حرفاً واحداً، فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت تشكو عقوق ابنك وقد عقتته من قبل أن يعقك، وأسأت إليه من قبل أن يسيء إليك. (برالوالدين لابن الجوزي)

One Man Came To Umar Bin Khattab (may Allah Be Pleased With Him) To Complain About His Son's Disobedience. Umar (may Allah Be Pleased With Him) Summoned The Boy To Ask Him About It. Umar (may Allah Be Pleased With Him) Admonished The Boy And Scolded Him Regarding His Behavior Towards His Father. Then The Boy In Turn Said To Umar (may Allah Be Pleased With Him) "does A Son Have Any Right On His Father Too?". Umar (may Allah Be Pleased With Him) Replied, "yes".the Boy Asked, "what Are Those Rights O Ameerul Momineen?" Umar Replied "the Rights Are That The Father Chooses A Good Mother For The Son, To Name Him With Him A Good Name And To Teach Him The Qu'ran." The Boy Then Said "o Ameerul Momineen , My Father Has Not Done Any Of Those Things. My Mother Was A Negro Who Was A Slave Of A Magian Before. He put my name which means an insect, and he never taught me even a letter of the Qur'an." Umar looked at the father and then said "You have come here to complain about your son's disobedience, although you were the one who didn't give your son's rights. Moreover, you are the one who treated your son badly before your son treated you badly".

ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچے سے اپنے باپ کی نافرمانی پر متنبہ کیا۔ تو اس لڑکے نے پوچھا: اے امیر المؤمنین! کیا بچے کے اس کے باپ پر بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، اس نے کہا: وہ کیا ہیں اے امیر المؤمنین؟ آپ نے بتایا: کہ اس کی ماں کا اچھا انتخاب کرے، اپنے بچے کا اچھا نام رکھے، اسے قرآن مجید سکھائے۔ اس لڑکے نے کہا: اے امیر المؤمنین میرا باپ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کیا۔ میری ماں ایک حبشی ہے جو اس سے قبل ایک مجوسی کی لونڈی تھی، اس نے میرا نام کیڑا رکھا، اور مجھے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں سکھایا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: تو مجھے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی داستان سنارہا تھا حالانکہ تو نے ہی اس کا حق مارا ہے قبل اس کے کہ وہ تیرا حق مارتا۔ تو نے ہی اس کے ساتھ برابر تاؤ کیا قبل اس کے کہ وہ تیرے ساتھ برابر تاؤ کرتا۔

Ek Aadmi Umar Bin Khattaab Raziyaallahu Anhu Ke Paas Apne Bete Ki Naafarmaani Ki Shikayat Le Kar Aaya. Umar Raziyaallaahu Anhu Ne Us Bache Ko Haazir Karne Ka Hukum Diya. Umar Raziyaallaahu Anhu Ne Us Bache Se Apne Baap Ki Naafarmaani Par Mutanabbah Kiya. To Us Ladke Ne Poocha: Aye Ameerul Mumineen! Kya Bache Ke Us Ke Baap Par Bhi Kuch Huqooq Aaed Hote Hain? Aap Ne Kaha Haa, Us Ne Kaha: Wo Kya Hain Aye Ameerul Mumineen? Aap Ne Bataya: Ko Uski Maa Ka Acha Intikhaab Kare, Apne Bache Ka Acha Naam Rakhe, Use Quraane Majeed Sikhaae. Us Ladke Na Kaha: Aye Ameerul Mumineen Mera Baap Is Tarah Ki Koi Cheez Nahi Kiya. Meri Maa Ek Habshi Hai Jo Is Se Qabl Ek Majoosi Ki Laundi Thi, Usne Mera Naam Kida Rakha, Aur Mujhe Qur'an Ka Ek Harf Bhi Nahi Sikhaya. Umar Raziyaallahu Anhu Uske Baap Ki Taraf Mutawajjah Hue Aur Kaha: Tu Mujhe Apne Bete Ki Naafarmaani Ki Daastan Suna Raha Tha Haalaanke Tu Ne Hi Us Ka Haq Maara Hai Qabl Iske Ke Wo Tera Haq Maarta. Tu Ne Hi Us Ke Saath Bura Bartaao Kiya Qabl Iske Ke Wo Tere Saath Bura Bartaao Karta.

مرنے کے بعد بھی اولاد کام آنے والی ہے اگر ان کی اچھی تربیت کی جائے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ."

(سنن نسائی: 3681، سنن ابوداؤد: 2880، سنن ترمذی: 1376، صحیح)

Narrated Abu Hurairah: The Messenger Of Allah (ﷺ) As Saying: When A Man Dies, His Action Discontinues From Him Except Three Things, Namely, Perpetual Sadaqah (charity), Or The Knowledge By Which Benefit Is Acquired, Or A Pious Child Who Prays For Him.

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ایسا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔“

Abu Huraira Raziyallahu Anhu Kahte Hain Ke Rasool Sallallaahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya: Jab Insaan Mar Jaata Hai To Us Ke Amal Ka Silsila Band Hojaata Hai Siwaae Teen Chizo Ke: Ek Sadqe Jaariya Hai, Doosra Aisa Ilm Hai Jis Se Log Faida Uthaein Aur Teesra Nek Wa Saleh Aulad Hai Jo Uske Liye Dua Kare.

اولاد کے درمیان انصاف کریں:

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ."

(سنن ابوداؤد: ۳۵۴۳، سنن نسائی: 3717، صحیح)

Narrated An-Nu'man ibn Bashir: The Prophet (ﷺ) said: Act equally between your children; Act equally between your sons.

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو، اپنے بیٹوں کے حقوق کی ادائیگی میں برابری کا خیال رکھا کرو،“ (کسی کے ساتھ نا انصافی اور زیادتی نہ ہو)۔

No'maan Bin Basheer Raziyallahu Anhuma Kahte Hain Ke Rasoolullah Sallallaahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya: Apni Aulad Ke Darmiyaan Insaaf Kiya Karo, Apne Beto Ke Huqooq Ki Adaegi Me Barabari Ka Khayal Rakha Karo. (kisi Ke Saath Naa Insaafi Aur Zyadati Na Ho)



Index



Topic		Page no
1. Surahs	1. سورتیں	01
2. Ahadees	2. احادیث	24
3. Islamic Manners	3. آداب	33
4. Advices	4. نصیحتیں	44
5. Stories	5. قصص	48
6. Basic Islamic Knowledge	6. دین کی اہم اور بنیادی تعلیمات	60
7. Tajweed	7. تجوید	106

Islamic Studies

CHAPTER

1

SURAHS

سورتیں

- SURAT-UZ-ZUHA ● سورة الضحیٰ
- SURAT-UL-INSHIRAAH ● سورة الانشراح
- SURAT-UT-TEEN ● سورة التین
- SURAT-UL-ALAQ ● سورة العلق
- SURAT-UL-QADR ● سورة القدر
- SURAT-UL-BAYYINAH ● سورة البینة
- SURAT-UL-ZIL ZAAL ● سورة الزلزال
- SURAT-UL-AADIYAAT ● سورة العادیات
- SURAT-UL-QAARIAH ● سورة القارعة
- SURAT-UT-TAKAASUR ● سورة التكاثر

SURAT-UZ-ZUHA

سورة الضحى

آيَاتُهَا ۱۱ (۹۳) سُورَةُ الضُّحَىٰ مَكِّيَّةٌ (۱۱) رُكُوعُهَا ۱
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَالضُّحَىٰ ۱ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۳
 وَلَا الْآخِرَةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۴ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
 فَتَرْضَىٰ ۵ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۶ وَوَجَدَكَ ضَالًّا
 فَهَدَىٰ ۷ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۸ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا
 تَقْهَرْ ۹ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۱۰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۱۱

English Translation:

- 1) By The Morning Brightness,
- 2) And [by] The Night When It Covers With Darkness,
- 3) Your Lord Has Not Taken Leave Of You, [O Muhammad],
Nor Has He Detested [You].
- 4) And The Hereafter Is Better For You Than The First [Life].
- 5) And Your Lord Is Going To Give You, And You Will Be Satisfied.
- 6) Did He Not Find You An Orphan And Give [You] Refuge?
- 7) And He Found You Lost And Guided [You],
- 8) And He Found You Poor And Made [You] Self-Sufficient.
- 9) So As For The Orphan, Do Not Oppress [Him].
- 10) And As For The Petitioner, Do Not Repel [Him].
- 11) But As For The Favor Of Your Lord, Report [It].

- (1) قسم ہے چاشت کے وقت کی،
- (2) اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے،
- (3) نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے،
- (4) یقیناً آپ کے لئے انجام آغاز سے بہتر ہوگا،
- (5) آپ کو آپ کا رب بہت جلد (انعام) دے گا اور آپ راضی (وخوش) ہو جائیں گے،
- (6) کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی،
- (7) اور آپ کو راہ بھو پا کر ہدایت نہیں دی،
- (8) اور آپ کو نادار پا کر تو نگر نہیں بنا دیا؟
- (9) پس یتیم پر آپ بھی سختی نہ کیا کریں،
- (10) اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ،
- (11) اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔

- 1) Qasam Hai Chaasht Ke Waqt Ki.
- 2) Aur Qasam Hai Raat Ki Jab Wo Cha Jaae.
- 3) Na To Aapke Rab Ne Aapko Chohda Aur Na Wo Bezaar Hogaya Hai.
- 4) Yaqeenan Aapke Liye Anjaam Aaghaaz Se Bahtar Hoga.
- 5) Aapko Aapka Rab Bohat Jald In'aam Dega Aur Aap Raazi Wa Khush Hojaaenge.
- 6) Kya Usne Aapko Yateem Paakar Jaga Nahi Di.
- 7) Aur Aapko Raah Bhoola Paakar Hidayat Nahi Di.
- 8) Aur Aapko Naadaar Paakar Tawangar Nahi Bana Diya?
- 9) Pas Yateem Par Aap Bhi Sakhti Na Kya Karein.
- 10) Aur Na Sawaal Karne Waale Ko Daant Dapat.
- 11) Aur Apne Rab Ki Ne'mato Ko Bayaan Karte Rahein.



SURAT-UL-INSHIRAAH

سورة الانشراح

اياتها ٨ (٩٣) سورة الانشراح مكيه (١٢) ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۙ

الَّذِیْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ فَاِنَّ

مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ فَاِذَا

فَرَغْتَ فَاَنْصَبْ ۙ وَاِلٰی رَبِّكَ فَارْغَبْ ۙ

ENGLISH TRANSLATION:

- 1) Did We Not Expand For You, [O Muhammad], Your Breast?
- 2) And We Removed From You Your Burden,
- 3) Which Had Weighed Upon Your Back,
- 4) And Raised High For You Your Repute.
- 5) For Indeed, With Hardship [will Be] Ease.
- 6) Indeed, With Hardship [Will Be] Ease.
- 7) So When You Have Finished [Your Duties], Then Stand Up [For Worship].
- 8) And To Your Lord Direct [your] Longing.

- (1) کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا،
 (2) اور آپ پر سے آپ کا بوجھ ہم نے اتار دیا،
 (3) جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی،
 (4) اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا،
 (5) پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے،
 (6) بیشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے،
 (7) پس جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں،
 (8) اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگائیں۔

Urdu Translation:

ROMAN TRANSLATION:

- 1) Kya Hamne Aapka Seena Nahi Khol Diya
- 2) Aur Aap Par Se Aapka Bojh Hamne Utaar Diya
- 3) Jisne Aapki Peeth Tod Di Thi
- 4) Aur Hamne Aapka Zikr Buland Kar Diya
- 5) Pas Yaqeenan Mushkil Ke Saath Aasaani Hai
- 6) Beshak Mushkil Ke Saath Aasaani Hai
- 7) Pas Jab Aap Faarigh Ho To Ibadat Me Mahnat Karein
- 8) Aur Apne Parwardigaar Hi Ki Taraf Dil Lagaein.



SURAT-UT-TEEN

سورة التين

سُورَةُ التِّينِ بِكَلِمَاتٍ تَمَّازِيهَا
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِیْنِیْنَ ۝ وَهٰذَا
 الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۝
 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
 وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ ۝ فَمَا
 یَكْذِبُكَ بَعْدُ بِالَّذِیْنَ ۝ اَلِیْسَ اللّٰهُ
 بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ ۝

English Translation:

- 1) By The Fig And The Olive,
- 2) And [By] Mount Sinai,
- 3) And [By] This Secure City [Makkah],
- 4) We Have Certainly Created Man In The Best Of Stature;
- 5) Then We Return Him To The Lowest Of The Low,
- 6) Except For Those Who Believe And Do Righteous Deeds,
For They Will Have A Reward Uninterrupted.
- 7) So What Yet Causes You To Deny The Recompense?
- 8) Is Not Allah The Most Just Of Judges?

(1) قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی،

(2) اور طور سینین کی،

(3) اور اس امن والے شہر کی،

(4) یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا،

(5) پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا،

(6) لیکن جو لوگ ایمان لائے اور (پھر) نیک عمل کیے تو ان کے لئے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا،

(7) پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے،

(8) کیا اللہ تعالیٰ (سب) حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔

Urdu Translation:

Roman Translation:

- 1) Qasam Hai Anjeer Ki Aur Zaitoon Ki
- 2) Aur Toor E Sineen Ki
- 3) Aur Is Aman Waale Shaheer Ki
- 4) Yaqeenan Hamne Insaan Ko Bahtareen Soorat Me Paida Kya
- 5) Phir Ise Nicho Se Nicha Kardiya
- 6) Laikin Jo Log Eemaan Laae Aur Phir Nek Amal Kiye To Unke Liye
Aisa Ajr Hai Jo Kabhi Khatam Na Hoga
- 7) Pas Tujhe Ab Roz-e-Jaza Ke Jhutlaane Par Konsi Cheez Aamaada
Karti Hai?
- 8) Kya Allah Ta'ala Sab Haakimo Ka Hakim Nahi Hai?



SURAT-UL-ALAQ

سورة العلق

آيَاتُهَا ١٩ (٩٦) سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ (١) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ

عَلَقٍ ٢ إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِيَطْغَى ٦

أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعَى ٨ أَرَأَيْتَ الَّذِي

يَنْهَى ٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ١٠ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ

الْهُدَىٰ ١١ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ١٢ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١٣

الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ١٤ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ١٥ لَنَسْفَعًا

بِالنَّاصِيَةِ ١٦ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ١٧ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ١٨

سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ ١٩ كَلَّا ٢٠ لَا تَطْعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ٢١

السجدة ع

- 1) Recite In The Name Of Your Lord Who Created
- 2) Created Man From A Clinging Substance.
- 3) Recite, And Your Lord Is The Most Generous
- 4) Who Taught By The Pen
- 5) Taught Man That Which He Knew Not.
- 6) No! [but] Indeed, Man Transgresses
- 7) Because He Sees Himself Self-sufficient.
- 8) Indeed, To Your Lord Is The Return.
- 9) Have You Seen The One Who Forbids,
- 10) A Servant When He Prays?
- 11) Have You Seen If He Is Upon Guidance,
- 12) Or Enjoins Righteousness?
- 13) Have You Seen If He Denies And Turns Away
- 14) Does He Not Know That Allah Sees?
- 15) No! If He Does Not Desist, We Will Surely Drag Him By The Forelock
- 16) A Lying, Sinning Forelock.
- 17) Then Let Him Call His Associates;
- 18) We Will Call The Angels Of Hell.
- 19) No! Do Not Obey Him. But Prostrate And Draw Near [to Allah].

- (1) پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا،
- (2) جس نے انسان کو خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا،
- (3) آپ پڑھتے رہیے آپ کا رب بڑے کرم والا ہے،
- (4) جس نے قلم کے ذریعے (علم) سکھایا،
- (5) جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا،
- (6) سچ مچ انسان تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے،
- (7) اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو بے پروا (یا تو نگر) سمجھتا ہے،
- (8) یقیناً گوٹنا آپ کے رب کی طرف ہے،
- (9) (بھلا) اسے بھی آپ نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے،

- (10) جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے،
 (11) بھلا بتلائیے اگر وہ ہدایت پر ہو،
 (12) یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو،
 (13) بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو،
 (14) کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے،
 (15) یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھسیٹیں گے،
 (16) ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کا رہے،
 (17) یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے،
 (18) ہم بھی (دوزخ کے) پیادوں کو بلا لیں گے،
 (19) خبردار! آپ اس کے کئے کی پروا نہ کیجئے، اور آپ سر بسجود رہئے اور (ہم سے مزید) قریب ہوتے جائیئے۔

- 1) Padhiye Apne Rab Ke Naam Se Jisne Paida Kya
- 2) Jisne Insaan Ko Khoon Ke Lothde Se Paida Kya
- 3) Aao Padhte Rahiye Aapka Rab Bade Karam Waala Hai
- 4) Jisne Qalam Ke Zariye Ilm Sikhaya
- 5) Jisne Insaan Ko Wo Sikhaya Jise Wo Nahi Jaanta Tha
- 6) Sach Much Insaan To Aape Se Baaher Ho Jaata Hai
- 7) Isliye Ke Wo Apne Aap Ko Be Parwaah Ya Tawangar Samajhta Hai
- 8) Yaqeenan Lautna Aapke Rab Ki Taraf Hai
- 9) Bhala Ise Bhi Aapne Dekha Jo Bande Ko Rokta Hai
- 10) Jabke Wo Banda Namaz Ada Karta Hai
- 11) Bhala Batlao To Agar Wo Hidayat Par Ho
- 12) Ya Parhezgaari Ka Hukum Deta Ho
- 13) Bhala Dekho To Agar Ye Jhutlaata Ho Aur Muh Pherta Ho To
- 14) Kya Isne Nahi Jaana Ke Allah Ta'ala Use Khoob Dekh Raha Hai
- 15) Yaqeenan Agar Ye Baaz Na Raha To Ham Uski Peshani Ke Baal Pakad Kar Ghaseetenge
- 16) Aisi Peshani Jo Jhuti Khatakaar Hai
- 17) Ye Apni Majlis Waalo Ko Bulaale
- 18) Ham Bhi Dozakh Ke Pyado Ko Bulalenge
- 19) Khabardaar! Aap Uske Kiye Ki Parwaah Na Kijiye, Aur Aap Sarbasujood Rahiye Aur (Hamse Mazeed) Qareeb Hojayye.

SURAT-UL-QADR

سورة القدر



English Translation:

- 1) Indeed, We Sent The Qur'an Down During The Night Of Decree.
- 2) And What Can Make You Know What Is The Night Of Decree?
- 3) The Night Of Decree Is Better Than A Thousand Months.
- 4) The Angels And The Spirit Descend Therein By Permission Of Their Lord For Every Matter.
- 5) Peace It Is Until The Emergence Of Dawn.

Urdu Translation:

- 1) یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا،
- 2) آپ کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟
- 3) قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے،
- 4) اس (میں ہر کام) کے سرانجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح (جبرائیل) اترتے ہیں،
- 5) یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک (رہتی ہے)۔

ROMAN TRANSLATION:

- 1) Yaqeenan Hamne Ise Shab E Qadar Me Naazil Kya
- 2) Aap Kya Jaano Ke Shab E Qadar Kya Hai?
- 3) Qadar Ek Hazaar Maheeno Se Bahtar Hai
- 4) Is Me Har Kaam Ke Sar Anjaam Dene Ko Apne Rab Ke Hokum Se Farishte Aur Rooh (jibraeel) Utarte Hain.
- 5) Ye Raat Saraasar Salaamati Ki Hoti Hai Aur Fajar Ke Tuloo Hone Tak Rahti Hai.



SURAT-UL-BAYYINAH

سورة البينة

الآيَاتُهَا ٨ (٩٨) سُورَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ (١٠٠) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۚ

فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۗ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۗ وَمَا أُصِرُوا إِلَّا

لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

فِيهَا ۗ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

جَنَّتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۗ

- 1) Those Who Disbelieved Among The People Of The Scripture And The Polytheists Were Not To Be Parted [from Misbelief] Until There Came To Them Clear Evidence -
- 2) A Messenger From Allah, Reciting Purified Scriptures,
- 3) Within Which Are Correct Writings,
- 4) Nor Did Those Who Were Given The Scripture Become Divided Until After There Had Come To Them Clear Evidence.
- 5) And They Were Not Commanded Except To Worship Allah, [Being] Sincere To Him In Religion, Inclining To Truth, And To Establish Prayer And To Give Zakah. And That Is The Correct Religion.
- 6) Indeed, They Who Disbelieved Among The People Of The Scripture And The Polytheists Will Be In The Fire Of Hell, Abiding Eternally Therein. Those Are The Worst Of Creatures.
- 7) Indeed, They Who Have Believed And Done Righteous Deeds - Those Are The Best Of Creatures.
- 8) Their Reward With Allah Will Be Gardens Of Perpetual Residence Beneath Which Rivers Flow, Wherein They Will Abide Forever, Allah Being Pleased With Them And They With Him. That Is For Whoever Has Feared His Lord.

(1) اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آجائے باز رہنے والے نہ تھے (وہ دلیل یہ تھی کہ)،

(2) اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے،

(3) جن میں صحیح اور درست احکام ہوں،

(4) اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آجانے کے بعد ہی (اختلاف میں پڑ کر) متفرق ہو گئے،

(5) انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لئے دین کو خالص رکھیں۔

ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں یہی ہے دین سیدھی ملت کا،

(6) بیشک جو لوگ اہل کتاب میں کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں (جائیں گے) جہاں وہ ہمیشہ

(ہمیشہ) رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلاق ہیں،

- (7) بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔
- (8) ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ ہے اس کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔

ROMAN TRANSLATION:

- 1) Ahle Kitab Ke Kaafir Aur Mushrik Log Jab Tak Ke Unke Paas Zaahir Daleel Na Aajaae Baaz Rahne Waale Na The (Wo Daleel Ye Thi Ke)
- 2) Allaah Ta'ala Ka Ek Rasool Jo Paak Saheefe Padhe
- 3) Jin Mein Saheeh Aur Durust Ahkaam Ho
- 4) Ahle Kitab Apne Paas Zaahir Daleel Aajaane Ke Baad Hi (Ikhtilaaf Me Padkar) Mutafarriq Hogae
- 5) Unhe Iske Siwa Koi Hokum Nahi Diya Gaya Ke Sirf Allaah Ta'ala Ki Ibadat Kaein Usi Ke Liye Deen Ko Khaalis Rakhein. Ibraheem Haneef Ke Deen Par Aurn Namaz Ko Qaaem Rakhein Aur Zakat Dete Rahein Yahi Hai Deen Seedhi Millat Ka
- 6) Beshak Jo Log Ahle Kitab Me Mushrik Hue Aur Mushrikeen Sab Dozakh Ki Aag Me Jaaenge Jaha Wo Hamesha Hamesha Rahenge, Ye Log Badtareen Khalaaeq Hain.
- 7) Beshak Jo Log Eemaan Laae Aur Nek Amal Kiye Ye Log Bahtareen Khalaaeq Hain.
- 8) Unka Badla Unke Rab Ke Paas Hameshgi Waali Jannatein Hain Jin Ke Niche Nahrein Bah Rahi Hain Jin Mein Wo Hamesha Hamesha Rahenge. Allaah Ta'ala Unse Raazi Hua Aur Ye Usse Raazi Hue. Ye Hai Uske Liye Jo Apne Parwardigaar Se Dare.



SURAT-UL-ZILZAL

سورة الزلزال

(99) سُورَةُ الزَّلْزَلِ مَدَنِيَّةٌ (93) رُكُوعُهَا ١
 آيَاتُهَا ٨
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
 أَثْقَالَهَا ② وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ
 أَخْبَارَهَا ④ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ⑤ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ
 أَشْتَاتًا ⑥ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ⑦ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 خَيْرًا يَرَهُ ⑧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ⑧

ENGLISH TRANSLATION:

- 1) When The Earth Is Shaken With Its [final] Earthquake,
- 2) And The Earth Discharges Its Burdens,
- 3) And Man Says, "what Is [wrong] With It?" -
- 4) That Day, It Will Report Its News,
Because Your Lord Has Commanded It.
- 5) That Day, The People Will Depart Separated [into Categories]
- 6) To Be Shown [the Result Of] Their Deeds.
- 7) So Whoever Does An Atom's Weight Of Good Will See It,
- 8) And Whoever Does An Atom's Weight Of Evil Will See It.

(1) جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی

(2) اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی

(3) انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا؟

(4) اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی

(5) اس لئے کہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا

(6) اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (واپس) لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیئے جائیں

(7) پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا

(8) اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

URDU TRANSLATION:

ROMAN TRANSLATION:

1) Jab Zameen Poori Tarah Jhinjhood Di Jaaegi

2) Aur Apne Bojh Baahar Nikaal Phenkegi

3) Insaan Kahne Lagega Ke Ise Kya Hogaya?

4) Us Din Zameen Apni Sab Khabrein Bayaan Kardegi

5) Isliye Ke Aapke Rab Ne Use Hukum Diya Hoga

6) Us Roz Log Mukhtalif Jama'atein Hokar Waapas Lautenge

Taake Unhe Unke Aamaal Dikha Diye Jaaein

7) Pas Jisne Zarra Baraabar Neki Ki Hogi Wo Use Dekh Lega

8) Aur Jisne Zarra Baraabar Buraae Ki Hogi Wo Use Dekh Lega.



SURAT-UL-AADIYAAT

سورة العاديات

آیاتہا ۱۱
 (۱۰۰) سُورَةُ الْعَادِيَاتِ مَكِّيَّةٌ (۱۳) رُكُوعُهَا ۱
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَالْعٰدِيَاتِ ضَبْحًا ۱ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۲ فَالْبَغِيَّاتِ
 صُبْحًا ۳ فَالْمُتْرَنَ بِهِ نَقْعًا ۴ فَوْسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۵
 اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۶ وَاِنَّهٗ عَلٰی
 ذٰلِكَ لَشٰهِيْدٌ ۷ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۸
 اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُوْرِ ۹ وَحُصِّلَ
 مَا فِی الصُّدُوْرِ ۱۰ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذٍ
 لَّخَبِيْرٌ ۱۱

English Translation:

- 1) By The Racers, Panting,
- 2) And The Producers Of Sparks [when] Striking,
- 3) And The Chargers At Dawn,
- 4) Stirring Up Thereby [clouds Of] Dust,
- 5) Arriving Thereby In The Center Collectively,

- 6) Indeed Mankind, To His Lord, Is Ungrateful.
- 7) And Indeed, He Is To That A Witness.
- 8) And Indeed He Is, In Love Of Wealth, Intense.
- 9) But Does He Not Know That When The Contents Of The Graves Are Scattered.
- 10) And That Within The Breasts Is Obtained,
- 11) Indeed, Their Lord With Them, That Day, Is [fully] Acquainted.

- 1) ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم!
- 2) پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم!
- 3) پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم
- 4) پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں
- 5) پھر اسی کے ساتھ فوجیوں کے درمیان گھس جاتے ہیں
- 6) یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے
- 7) اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے
- 8) یہ مال کی محنت میں بھی بڑا سخت ہے
- 9) کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو (کچھ) ہے نکال لیا جائے گا
- 10) اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی
- 11) بیشک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہو گا۔

URDU TRANSLATION:

ROMAN TRANSLATION:

- 1) Haanpte Hue Daudne Waale Ghodo Ki Qasam
- 2) Phir Taap Maar Kar Aag Jhaadne Waalo Ki Qasam
- 3) Phir Subah Ke Waqt Dhaawa Bolne Waalo Ki Qasam
- 4) Pas Us Waqt Gard O Ghubaar Udaate Hain
- 5) Phir Usi Ke Saath Faujiyo Ke Darmiyaan Ghus Jaate Hain
- 6) Yaqeenan Insaan Apne Rab Ka Bada Naashukra Hai
- 7) Aur Yaqeenan Wo Khud Bhi Is Par Gawah Hai
- 8) Ye Maal Ki Mahnat Me Bhi Bada Sakht Hai
- 9) Kya Use Wo Waqt Maloom Nahi Jab Qabro Me Jo Kuch Hai
Nikaal Liya Jaaega
- 10) Aur Sino Ki Posheeda Baatein Zaahir Kardi Jaaengi
- 11) Beshak Unka Rab Us Din Unke Haal Se Poora Baakhabar Hoga.

SURAT-UL-QAARIAH

سورة القارعة

آيَاتُهَا ۱۱ ﴿۱۰۱﴾ سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ ﴿۳۰﴾ رُكُوعُهَا ۱
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْقَارِعَةُ ۱ مَا الْقَارِعَةُ ۲ وَمَا أَدْرٰكُ مَا الْقَارِعَةُ ۳
 یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۴ وَتَكُونُ
 الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۵ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۶
 فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ ۷ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۸
 فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ ۹ وَمَا أَدْرٰكُ مَا هِیَ ۱۰ نَارٌ حَامِیَةٌ ۱۱

ENGLISH TRANSLATION:

- 1) The Striking Calamity -
- 2) What Is The Striking Calamity?
- 3) And What Can Make You Know What The Striking Calamity Is?
- 4) It Is The Day When People Will Be Like Moths, Dispersed,
- 5) And The Mountains Will Be Like Wool, Fluffed Up.
- 6) Then As For One Whose Scales Are Heavy [With Good Deeds],
- 7) He Will Be In A Pleasant Life.
- 8) But As For One Whose Scales Are Light,
- 9) His Refuge Will Be An Abyss.
- 10) And What Can Make You Know What That Is?
- 11) It Is A Fire, Intensely Hot.

(1) کھڑکھڑادینے والی

(2) کیا ہے وہ کھڑکھڑادینے والی

(3) آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑادینے والی کیا ہے

(4) جس دن انسان بکھرے ہوئے پر وانوں کی طرح ہو جائیں گے

(5) اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے

(6) پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے

(7) وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا

(8) اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے

(9) اس کا ٹھکانا وہ یہ ہے

(10) آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے

(11) وہ تند و تیز آگ (ہے)۔

Urdu Translation:

Roman Translation:

- 1) Khadkhadaa Dene Waali
- 2) Kya Hai Khad Khadaa Dene Waali?
- 3) Aapko Kya Maaloom Ke Wo Khad Khada Dene Waali Kya Hai?
- 4) Jis Din Insaan Bikhre Hue Parwaano Ki Tarah Ho Jaenge
- 5) Aur Pahaad Dhune Hue Rangeen Oon Ki Tarah Ho Jaenge
- 6) Phir Jis Ke Palde Bhaari Hoonge
- 7) Wo To Dil Pasand Aaraam Ki Zindagi Me Honge
- 8) Aur Jis Ke Palde Halke Honge
- 9) Uska Thikaana Haawiya Hai
- 10) Aap Ko Kya Maaloom Ke Wo Kya Hai?
- 11) Wo Tund O Tez Aag Hai.



SURAT-UT-TAKAASUR

سورة التكاثر

آيَاتُهَا ٨ (١٠٢) سُورَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ (١٦) رُكُوعُهَا ١
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝۱ حَتّٰی زُرْتُمُ الْبُقَاۤءِرَ ۝۲ كَلَّا سَوْفَ
 تَعْلَمُوْنَ ۝۳ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۴ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ
 عِلْمَ الْیَقِیْنِ ۝۵ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ۝۶ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا
 عَیْنَ الْیَقِیْنِ ۝۷ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ۝۸

English Translation:

- 1) Competition In [worldly] Increase Diverts You,
- 2) Until You Visit The Graveyards.
- 3) No! You Are Going To Know.
- 4) Then No! You Are Going To Know.
- 5) No! If You Only Knew With Knowledge Of Certainty...
- 6) You Will Surely See The Hellfire.
- 7) Then You Will Surely See It With The Eye Of Certainty.
- 8) Then You Will Surely Be Asked That Day About Pleasure.

URDU TRANSLATION:

- (1) زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا
- (2) یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے
- (3) ہر گز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے
- (4) ہر گز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا
- (5) ہر گز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو
- (6) تو بیشک تم جہنم دیکھ لو گے
- (7) اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے
- (8) پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہو گا۔

ROMAN TRANSLATION:

- 1) Zyadati Ki Chahat Ne Tumhe Ghafil Kardiya
- 2) Yaha Tak Ke Qabristan Jaa Pahunche
- 3) Hargiz Nahi Tum Anqareeb Maaloom Karloge
- 4) Hargiz Nahi Phir Tumhe Jald Ilm Hojaaega
- 5) Hargiz Nahi Agar Tum Yaqeeni Taur Par Jaan Lo
- 6) To Beshak Tum Jahannam Dekh Loge
- 7) Aur Tum Use Yaqeen Ki Aankh Se Dekh Loge
- 8) Phir Us Din Tum Se Zaroor Biz Zaroor Ne'mato Ka Sawaal Hoga.



CHAPTER

2

AHADEES

احاديث

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Mallaa Yarham Laayurham

He, Who Is Not Merciful To Others, Will Not Be Treated Mercifully.

جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

Jo Doosro Par Rahem Nahi Karta Us Par Rahem Nahi Kiya Jaata

بخاری: 6013

1

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Al-Hayaau Shu'batun Minal Eemaan

The Modesty Is A Branch Of Eemaan.

حیا داری ایمان کی ایک شاخ ہے۔

Haya Daari Eemaan Ki Ek Shaakh Hai.

بخاری: 9، مسلم: 35

2

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

خَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

Khaaliqin naasa Bikhuluqin Hasanin

And Behave Decently Towards People.

لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔

Logo Ke Saath Acche Akhlaaq Se Pesh Aao.

3

سنن ترمذی: 1987

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمَّ

Qul Aamantu Billaahi Summastaqim

Say I Believe In Allaah And Then Be Steadfast.

کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔

Kaho Mai Allaah Ta'ala Par Eemaan Laaya Phir
Us Par Dat Jaao.

4

صحیح ابی یوسف: 4395، مسلم: 38

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Kullu Muskirin Haraamun

Every Intoxicant Is Unlawful.

ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

Har Nasha Aawur Cheez Haram Hai.

5

بخاری: 7172، مسلم: 2002

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

Man 'allaqa Tameematan Faqad Ashrak

Whoever Hangs An Amulet Has Committed Shirk.

جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔

Jisne Taweez Latkaae Usne Shirk Kiya.

6

السنن الصحیحہ: 492، صحیح ابان: 6394

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

Maa Naqasat Sadaqatun Min Maal

Wealth Does Not Diminish By Giving Sadaqah (Charity).

صدقہ و خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔

Sadqa Wa Khairaat Se Maal Me Kami Nahi Hoti.

7

مسلم: 2588

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Man Tashabbaha Biqaumin Fahuwa Minhum

He Who Imitates Any People (Disbelievers) Is Considered To Be One Of Them.

جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے۔

Jo Kisi Qaum Ki Mushabihat Ikhtiyaar Kare Wo Unhi Me Se Hai.

8

صحیح ابی داؤد: 4031

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

Laa Yadkhulul Jannata Qattaat

A Gossiper Will Not Enter Paradise.

چغلوخوڑ جنت میں نہیں جائے گا۔

Choghalkhor Jannat Me Nahi Jaaega

9

بخاری: 6056، مسلم: 105

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ

Yusallimus Sagheeru 'Alal Kabeer

The Young Should Greet The Old.

چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔

Chota Bade Ko Salaam Kare.

10

بخاری: 6234

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

Ta'awwazoo Billaahi Min 'Azabil Qabr

Seek Refuge From Allaah From The Torment Of The Grave

عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔

Azaab-e-Qabr Se Allaah Ta'ala Ki Panaah Mango.

11

مسلم: 2867

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ

Laa Ta'tul Kuhhaan

Don't Visit Kahins (Soothsayers)

کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔

Kaahino Ke Paas Mat Jaao.

12

مسلم: 537

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

Al-Mar'u Ma'a Man Ahabba

The Man Will Be With Those Whom He Loves.

آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا۔

Aadmi Usi Ke Saath Hoga Jis Se Wo Muhabbat Rakhega.

بخاری: 6169

13

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Ballighoo Anni Walau Aayah

Convey From Me Even If It Is An Ayah Of The Qur'an.

میری جانب سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔

Meri Jaanib Se Logo Ko Pahuncha Do Agarche Ek Aayat Hi Ho.

بخاری: 3464، سنن ترمذی: 2669

14

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

Ad-Daallu 'Alal Khairi Kafa'ilihi

Whoever Leads To Good, He Is Like The One Who Does It.

نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی مانند ہے۔

Neki Ki Taraf Rahnumaee Karne Waala Bhi Neki
Karne Waale Ki Maanind Hai.

15

صحیح الترغیب: 2670

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ

Iza Ghaziba Ahadukum Fal Yaskut

When One Of You Is Angry, He Should Be Silent.

جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔

Jab Tum Me Se Kisi Ko Ghussa Aae To Wo Khamoosh Hojaae.

16

صحیح ابی داؤد: 4027

CHAPTER

3

Islamic Etiquettes

اسلامی آداب

Islami Aadaab



Manners Of Wearing Clothes

کیڑے پہنے کے آداب

Kapde Pahenne Ke Aadaab

1

Say Bismillah, When Putting On Clothes.

کیڑے اتارتے وقت "بسم اللہ" کہیں۔

Kapde Utaarte Waqt "Bismillaah" Kahein.

(Sahih Al Jame Al-agheer 3610)

2

Start From Right Side.

دائیں جانب سے شروع کریں۔

Daein Jaanib Se Shuru Karein.

(Sahih Bukhari- 168)

3

When Wearing Clothes Read This Dua:

عام لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھیں:

Aam Libaas Pahente Waqt Ye Dua Padhein:

(Abu Dawood - 4023)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ
وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

Alhamdu-lillahil-Lazi Kasaani Haazas-Sauba Wa
Razaqa-Neehi Min Ghairi Haulim-Minni
Walaa Quwwah

Praise Be To Allaah Who Has Clothed Me With This And Provided Me
With It Through No Might And Power On My Part,

ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے میری
ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر یہ عطا کیا۔

Har Qism Ki Tareef Allaah Ta'ala Hi Ke Liye Hai Jis Ne Mujhe Ye
Libaas Pahnaaya Aur Mujhe Meri Zaati Quwwat Aur Taaqat Ke
Baghair Ye Ata Kiya.



4

When Wearing New Clothes Read This Dua:

نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھیں:

Naya Libaas Pahente Waqt Ye Dua Padhein:

(Abu Dawood - 4020)

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ
مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

**Allahumma Lakal Hamdu Anta Kasawtanihi,
Asaluka Min Khairihi Wa Khairi Ma Suni'a Lahu,
Wa A'uzubika Min Sharrihi Wa Sharri
Masuni'a Lahu.**

**O' Allaah , All Praise Is For You, As You Have Given Me This Clothes To Wear,
& I Beg The Goodness Of This Clothes, & Goodness Of That For Which It
Is Made, and I Beg Your Refuge From The Evil Of This Cloth, and The Evil
Of That For Which It Is Made.**

اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تجھی نے مجھے یہ پہنایا، میں تجھی سے سوال کرتا ہوں اس کی
بھلائی کا اور اس کام کی بھلائی کا جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے
اور اس کام کے شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔

**Aye Allaah Ta'ala Tere Hi Liye Har Qism Ki Taref Hai, Tujhi Ne Mujhe Ye Pahnaaya,
Mai Tujhi Se Sawaal Karta Hoo Iski Bhalae Ka Aur Us Kaam Ki Bhalae Ka
Jiske Liye Ise Banaaya Gaya Hai Aur Mai Teri Panaah Me Aata Hoo Uske Shar
Se Aur Us Kaam Ke Shar Se Jis Ke Liye Ise Banaya Gaya Hai.**



**If You See Any One In New Clothes, Read This
Dua In His Favour**

5

اگر کسی کو نئے کپڑے پہنے دیکھیں تو یہ دعائیں:

**Agar Kisi Ko Nae Kapde Pahne Dekhein To
Ye Dua Padhein:**

(Abu Dawood - 4020)

تُبَلِّي وَيُخْلِيفُ اللَّهُ تَعَالَى

Tubla Wa Yukhlifullahu Ta'aala

May You Wear It Out And May Allaah Give You Another In Its Place

تم اسے بوسیدہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض اور دے۔

Tum Ise Boseeda Karo Aur Allaah Ta'ala Tumhe Iske Iwaz Aur De.
(May You Live Long).



Manners While
Leaving &
Entering The
Home:



Ghar Se Nikalte
Aur Daakhil
Hote Waqt Ke
Aadaab

گھر سے نکلتے اور داخل ہوتے وقت کے آداب

1

Take Allaah's Name Whenever One Enters The Home.

گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ کہا جائے۔

Ghar Me Dakhil Hote Waqt Bismillaah Kaha Jaae.

(Sahih Muslim - 2008)

2

Then Offer Salaam

پھر سلام کریں۔

Phir Salaam Karein.

(Surah Noor - 61)

3

Take Permission Before Entering

اجازت لے کر داخل ہوں۔

Ijzat Lekar Dakhil Ho.

(Sahih Muslim - 2154)

4

Don't Peep In Others House

کسی کے گھر میں نہ جھانکیں۔

Kisi Ke Ghar Me Na Jhaankein.

(Abu Dawood - 5172)

5

When Leaving Home, Read This Dua:

گھر سے نکلنے وقت یہ دعا پڑھیں:

Ghar Se Nikalte Waqt Ye Dua Padhein:

(Sahih Muslim - 2008)

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

**Bismil-lahi Tawak-Kaltu Alallahi, Laa
Haula Walaa Quwwata Illa Billaah**

"In The Name Of Allah, I Trust In Allaah; There Is No Might
And No Power But In Allah,"

میں اس گھر سے اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور
گناہ سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔

**Main Is Ghar Se Allaah Ta'ala Ke Naam Ke Saath Nikal Raha Hoon,
Mai Ne Allah Ta'ala Par Bharosa Kiya Aur Gunah Se Bachne Ki Himmat Hai
Aur Na Neki Karne Ki Taaqat Magar Allah Ta'ala Hi Ki Taufeeq Se.**



Manners Of Walking On The Path

راستے کے آداب

Raaste Ke Aadaab

1

Walk Humbly On The Earth

زمین پر فروتنی سے چلا کریں۔

Zameen Par Farotani Se Chala Karein

(Al Furqan-63)

2

Don't Walk Proudly With Raised Chest & Shoulders.

اترا کر اور سینہ پھلا کر نہ چلیں۔

Itra Kar Aur Seena Phula Kar Na Chalein

(Luqman-18)

3

Keep Your Gaze Low When Walking

اپنی نگاہ نیچے رکھیں

Apni Nigah Niche Rakhein

(Al Noor-30)

4

Offer Salam, To Every Known & Unknown Person.

سلام کریں، جسے جانتے ہوں اور جسے نہیں جانتے۔

Salaam Karein, Jise Jaante Ho Aur Jise Nahi Jaante

(Bukhari-5761)

5

Remove The Obstacles Things Coming In The Way

راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرتے ہوئے جائیں۔

Raaste Se Takleefdah Cheez Door Karte Huwe Jaein

(Bukhari-5761)

6

Guide The Passengers In The Right Way

مسافر کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں۔

Musafir Ki Saheeh Raaste Ki Taraf Rahnumai Karein

(Bukhar-5861)

7

Help The Helpless

بے یار و مددگار کی مدد کریں۔

Be-Yaar o Madagaar Ki Madad Karein

(Ahmed-17753)

8

Answer / Reply The Salaam.

سلام کا جواب دیں۔

Salaam Ka Jawab Dein

(Ahmed-11157)

9

Enjoying The Goods.

بھلی باتوں کا حکم دیں۔

Bhali Baato Ka Hukum Dein

(Bukhar-5761)

10

Forbid Evil.

بڑی باتوں سے روکیں۔

Buri Baato Se Rokein

(Bukhari-5761)

11

Save Yourself From Dangerous Things.

اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں

Apne Aap Ko Halakat Se Bachaein

(Al-Baqra-195)

12

If You See Any Person In Trouble, Read This Dua:

کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں:

Kisi Musibat-Zadah Ko Dekhein To Ye Dua Padhein:

(Al Furqan-63)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا

Alhamdu Lillaahil Lazi 'Aafaani Mimmab Talaaka Bhihi Wa Fazzalani 'Alaa Kaseerin Mimman Khalaaqa Tafzeela.

**All Praise Is For Allah, Who Has Saved Me From This Trail, In Which You
Are Involved & Has Offered Me Importance Among His Creatures.**

ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے اور
مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔

**Har Qism Ki Tareef Allah Ta'ala Ke Liye Hai Jisne Mujhe Us Cheez Se
Aafiyat Di Jis Me Tujhe Mubtela Kiya Hai Aur Mujhe Apni Makhlooq Me Se
Bohat So Par Fazilat Ata Farmaee Hai.**



CHAPTER

4

Advices

نصیحتیں

Nasihatein

Some Example Of Actions That Hurts Parents, Therefore It Is Obligatory On Us To Abandon Them:

- ◆ Making Them Cry
 - ◆ Threatening Them
 - ◆ Bringing Sadness Into Their Hearts
 - ◆ Glaring Or Rolling Your Eyes At Them
 - ◆ To Not Be Submissive To Them
 - ◆ To Order Them Around
 - ◆ Frowning While With Them
 - ◆ Mentioning Your Own Problems
 - ◆ Being Miserly
 - ◆ Mentioning Your Favors Upon Them
 - ◆ Hoping For Their Death
- (“Shaik Saleh Al Fawzan: Al-Bir Was-Silah”)

کچھ مثالیں ایسے کاموں کی جو والدین کو تکلیف دینے والے ہیں، اس لیے ان سے بچنا واجب ہے:

- ◆ اپنے ذاتی مسائل کا بلاوجہ اظہار کرنا
- ◆ انہیں رلانا
- ◆ ان کے ساتھ کنجوسی کا معاملہ کرنا
- ◆ انہیں ڈرانا
- ◆ ان پر کیے گئے اپنے احسانات جتنا
- ◆ ان کے دلوں میں اداسی بھر دینا
- ◆ ان کے موت کی تمنا کرنا
- ◆ انہیں آنکھیں دکھانا
- ◆ (الشیخ صالح الفوزان: البر والصلہ)
- ◆ ان کی فرمانبرداری نہ کرنا
- ◆ ان کی باتوں کو رد کرنا

Kuch Misalein Aise Kaamo Ki Jo Walidain Ko Takleef Dene Waale Hain, IslIye Unse Bachna Wajib Hai:

- ◆ Unhe Rulaana
 - ◆ Unhe Daraana
 - ◆ Unke Dilo Me Udasi Bhar Dena
 - ◆ Unhe Aankhein Dikhaana
 - ◆ Unki Farmabardaari Na Karna
 - ◆ Unki Baato Ko Rad Karna
 - ◆ Apne Zaati Masail Ka Bilawajah Izhaar Karna
 - ◆ Unke Saath Kanjoosi Ka Maamla Karna
 - ◆ Un Par Kiye Gae Apne Ahsanaat Jataana
 - ◆ Unke Maut Ki Tamanna Karna
- (“Shaik Saleh Al Fawzan: Al-Bir Was-Silah”)

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ
يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (سورة لقمان 16)

Translation

[And Luqman Said], "O My Son, Indeed If Wrong Should Be The Weight Of A Mustard Seed And Should Be Within A Rock Or [Anywhere] In The Heavens Or In The Earth, Allaah Will Bring It Forth. Indeed, Allaah Is Subtle And Acquainted. (16)

Urdu Translation

پیارے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ (بھی) خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالیٰ ضرور لے گا اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے (16)

Roman Translation:

Pyare Bete! Agar Koi Cheez Raae Ke Daane Ke Baraabar Ho Phir Wo Bhi Khwaah Kisi Chattaan Me Ho Ya Aasmaano Me Ho Ya Zameen Me Ho Use Allaah Ta'ala Zaroor Laaega, Allaah Ta'ala Bada Baareek Been Aur Khabardaar Hai. (16)

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ
مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (سورة لقمان 17)

Translation

O My Son, Establish Prayer, Enjoin What Is Right, Forbid What Is Wrong, And Be Patient Over What Befalls You. Indeed, [All] That Is Of The Matters [Requiring] Determination. (17)

Urdu Translation

اے میرے پیارے بیٹے! تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبت تم پر آجائے صبر کرنا (یقین مانو) کہ یہ بڑے تاکید کی کاموں میں سے ہے (17)

Roman Translation:

Aye Mere Pyare Bete! Tu Namaz Qaem Rakhna, Acche Kaamo Ki Naseehat Karte Rahna, Bure Kaamo Se Mana Karna Aur Jo Musibat Tum Par Aajaae Sabr Karna Yaqeen Maano Ke Ye Bade Takeedi Kaamo Me Se Hai. (17)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
(سورة لقمان 18)

Translation

And Do Not Turn Your Cheek [In Contempt] Toward People And Do Not Walk Through The Earth Exultantly. Indeed, Allaah Does Not Like Everyone Self-Deluded And Boastful. (18)

Urdu Translation

لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اتر کر نہ چل کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو
اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا (18)

Roman Translation:

Logo Ke Saamne Apne Gaal Na Phula Aur Zameen Par Itra Kar Na Chal Kisi Takabbur Karne Waale Shekhi Khore Ko Allaah Ta'ala Pasand Nahi Farmaata. (18)

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (سورة لقمان 19)

Translation

And Be Moderate In Your Pace And Lower Your Voice; Indeed, The Most Disagreeable Of Sounds Is The Voice Of Donkeys." (19)

Urdu Translation

اپنی رفتار میں میاں روئی اختیار کر، اور اپنی آواز پست کر یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز
گدھوں کی آواز ہے (19)

Roman Translation:

Apni Raftaar Me Miyaana Rawi Ikhtiyaar Karo, Aur Apni Aawaaz Past Kar Yaqeenan Aawaazo Me Sab Se Badtar Aawaaz Gadho Ki Aawaaz Hai. (19)

CHAPTER

5

Stories

قصص

Qisas

Story Of Embracing Islam Of Abu Huraira's Mother

Abu Huraira Reported:

I Invited My Mother, Who Was A Polytheist, To Islam. I Invited Her One Day And She Said To Me Something About Allaah's Messenger (ﷺ) Which I Hated. I Came To Allaah's Messenger (ﷺ) Weeping And Said: Allaah's Messenger, I Invited My Mother To Islam But She Did Not Accept (My Invitation). I Invited Her Today But She Said To Me Something Which I Did Not Like. (Kindly) Supplicate Allaah That He May Set The Mother Of Abu Huraira Right. Thereupon Allaah's Messenger (ﷺ) Said: O Allaah, Set The Mother Of Abu Huraira On The Right Path. I Came Out Quite Pleased With The Supplication Of Allaah's Apostle (ﷺ) And When I Came Near The Door It Was Closed From Within. My Mother Heard The Noise Of My Footsteps And She Said: Abu Huraira, Just Wait. And I Heard The Noise Of Falling Of Water. She Took A Bath And Put On The Shirt And Quickly Covered Her Head With A Headdress And Opened The Door And Then Said: Abu Huraira, I Bear Witness To The Fact That There Is No God But Allaah And Muhammad Is His Bondsman And His Messenger. He (Abu Huraira) Said: I Went Back To Allaah's Messenger (ﷺ) And (This Time) I Was Shedding The Tears Of Joy. I Said: Allaah's Messenger, Be Happy, For Allaah Has Responded To Your Supplication And He Has Set On The Right Path The Mother Of Abu Huraira. (Sahi Muslim: 2491)



ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کے اسلام لانے کا واقعہ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ خود دولت اسلام سے بہرہ ور ہو گئے تو ان کو فکر ہوئی اپنی بوڑھی ماں کو بھی اس سعادت میں شریک کروں مگر وہ برابر انکار کرتی رہیں ایک دن حسب معمول ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے شان نبوت میں کچھ ناروا الفاظ استعمال کیے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اللہ کے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کر کے ماں کے اسلام لانے کے لئے طالب دعا ہوئے، رحمت عالم ﷺ نے دعا فرمائی یا اللہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کو اسلام کی ہدایت دے، گھر واپس ہوئے تو دعا قبول ہو چکی تھی، ان کی والدہ اسلام قبول کرنے کے لئے نہادھو کر تیار ہو رہی تھیں، جیسے ہی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ گھر پہنچے ماں نے پڑھا "اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد عبدہ ورسولہ" آپ اپنی والدہ سے یہ الفاظ سنتے ہی فوراً لٹے پاؤں فرط مسرت سے روتے ہوئے کاشانہ نبوی ﷺ پر حاضر ہوئے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ بشارت ہو آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے میری ماں کو اسلام کی ہدایت بخش دی۔ (صحیح مسلم: 2491)

Abu Huraira Raziyallahu Anhu Ki Maa Ke Islam Laane Ka Waqia

Abu Huraira Raziyallahu Anhu Khud Islam Se Bahrawar Hogae To Unko Fikr Hui Apni Budhi Maa Ko Bhi Is Sa'adat Me Shareek Karoo, Magar Wo Baraabar Inkaar Karti Rahein, Ek Din Hasb Mamool Unko Islam Ki Dawat Di To Unho Ne Shaan-e-Nubuwwat Me Kuch Naarawa Alfaaz Istemaal Kiye, Abu Huraira Raziyallahu Anhu Rote Hue Allaah Ke Nabi Ki Khidmat Me Haazir Hue Aur Ye Waaqia Bayaan Karke Maa Ke Islam Laane Ke Liye Taalib-e-Dua Hue, Rahmat-e-Aalam Ne Dua Farmae: Ya Allaah Abu Huraira Ki Maa Koi Slam Ki Hidayat De. jab Abu Huraira Ghar Waapas Hue To Dua Qabool Ho Chuki Thi, Unki Waalida Islam Qabool Karne Ke Liye Naha Dho Kar Tayyaar Horahi Thein, Jaise Hi Abu Huraira Raziyallahu Anhu Ghar Pahunche Maa Ne Kalima Padha. Aap Apni Waalida Se Ye Alfaaz Sunte Hi Fauran Ulte Paoon Farte Masarrat Se Rote Hue Nabi Ke Paas Aae Aur Arz Kiya: Ya Rasoolullah Basharat Ho Aap Ki Dua Qabool Hui, Allaah Ta'ala Ne Meri Maa Koi Slam Ki Hidayat Bakhsh Di. (Sahi Muslim: 2491)

Test Of a Child's Faith

Allaah 's Messenger Said: There Lived A King Before You And He Had A (court) Magician. As He (the Magician) Grew Old, He Said To The King: I Have Grown Old, Send Some Young Boy To Me So That I Should Teach Him Magic. He (the King) Sent To Him A Young Man So That He Should Train Him (in Magic). And On His Way (to The Magician) He (the Young Man) Found A Monk Sitting There. He (the Young Man) Listened To His (the Monk's) Talk And Was Impressed By It. It Became His Habit That On His Way To The Magician He Met The Monk And Set There And He Came To The Magician (late). He (the Magician) Beat Him Because Of Delay. He Made A Complaint Of That To The Monk And He Said To Him: When You Feel Afraid Of The Magician, Say: Members Of My Family Had Detained Me. And When You Feel Afraid Of Your Family You Should Say: The Magician Had Detained Me. It So Happened That There Came A Huge Beast (of Prey) And It Blocked The Way Of The People, And He (the Young Boy) Said: I Will Come To Know Today Whether The Magician Is Superior Or The Monk Is Superior. He Picked Up A Stone And Said: O Allaah , If The Affair Of The Monk Is Dearer To Thee Than The Affair Of The Magician, Cause Death To This Animal So That The People Should Be Able To Move About Freely. He Threw That Stone Towards It And Killed It And The People Began To Move About (on The Path Freely). He (the Young Man) Then Came To That Monk And Informed Him And The Monk Said: Sonny, Today You Are Superior To Me. Your Affair Has Come To A Stage Where I Find That You Would Be Soon Put To A Trial, And In Case You Are Put To A Trial Don't Give My Clue. That Young Man Began To Treat The Blind And Those Suffering From Leprosy And He In Fact Began To Cure People From (all Kinds) Of Illness. When A Companion Of The King Who Had Gone Blind Heard About Him, He Came To Him With Numerous Gifts And Said: If You Cure Me All These Things Collected Together Here Would Be Yours. He Said:

I Myself Do Not Cure Anyone. It Is Allaah Who Cures And If You Affirm Faith In Allaah , I Shall Also Supplicate Allaah To Cure You.he Affirmed His Faith In Allaah And Allaah Cured Him And He Came To The King And Sat By His Side As He Used To Sit Before. The King Said To Him: Who Restored Your Eyesight? He Said: My Lord. Thereupon He Said: It Means That Your Lord Is One Besides Me. He Said: My Lord And Your Lord Is Allaah , So He (The King) Took Hold Of Him And Tormented Him Till He Gave A Clue Of That Boy. The Young Man Was Thus Summoned And The King Said To Him: O Boy, It Has Been Conveyed To Me That You Have Become So Much Proficient In Your Magic That You Cure The Blind And Those Suffering From Leprosy And You Do Such And Such Things. Thereupon He Said: I Do Not Cure Anyone; It Is Allaah Who Cures, And He (the King) Took Hold Of Him And Began To Torment Him. So He Gave A Clue Of The Monk. The Monk Was Thus Summoned And It Was Said To Him: You Should Turn Back From Your Religion. He, However, Refused To Do So. He (Ordered) For A Saw To Be Brought (and When It Was Done) He (The King) Placed It In The Middle Of His Head And Tore It Into Parts Till A Part Fell Down. Then The Courtier Of The King Was Brought And It Was Said To Him: Turn Back From Your Religion. And He Refused To Do So, And The Saw Was Placed In The Midst Of His Head And It Was Torn Till A Part Fell Down. Then That Young Boy Was Brought And It Was Said To Him: Turn Back From Your Religion. He Refused To Do So And He Was Handed Over To A Group Of His Courtiers. And He 'Said To Them: Take Him To Such And Such Mountain; Make Him Climb Up That Mountain And When You Reach Its Top (Ask Him To Renounce His Faith) But If He Refuses To Do So, Then Throw Him (Down The Mountain). So They Took Him And Made Him Climb Up The Mountain And He Said: O Allaah , Save Me From Them (In Any Way) Thou Likest And The Mountain Began To Quake And They All Fell Down And That Person Came Walking To The King. The King Said To Him: What Has Happened To Your Companions? He Said: Allaah Has Saved Me From Them.

He Again Handed Him To Some Of His Courtiers And Said: Take Him And Carry Him In A Small Boat And When You Reach The Middle Of The Ocean (Ask Him To Renounce) His Religion, But If He Does Not Renounce His Religion Throw Him (Into The Water)

So They Took Him And He Said: O Allaah , Save Me From Them And What They Want To Do. It Was Quite Soon That The Boat Turned Over And They Were Drowned And He Came Walking To The King, And The King Said To Him: What Has Happened To Your Companions? He Said: Allaah Has Saved Me From Them, And He Said To The King: You Cannot Kill Me Until You Do What I Ask You To Do. And He Said: What Is That? He Said: You Should Gather People In A Plain And Hang Me By The Trunk (Of A Tree). Then Take Hold Of An Arrow From The Quiver And Say: In The Name Of Allaah, The Lord Of The Worlds; Then Shoot An Arrow And If You Do That Then You Would Be Able To Kill Me. So He (The King) Called The People In An Open Plain And Tied Him (The Boy) To The Trunk Of A Tree, Then He Took Hold Of An Arrow From His Quiver And Then Placed The Arrow In The Bow And Then Said: In The Name Of Allaah , The Lord Of The Young Boy; He Then Shot An Arrow And It Bit His Temple. He (The Boy) Placed His Hands Upon The Temple Where The Arrow Had Bit Him And He Died And The People Said: We Affirm Our Faith In The Lord Of This Young Man, We Affirm Our Faith In The Lord Of This Young Man, We Affirm Our Faith In The Lord Of This Young Man. The Courtiers Came To The King And It Was Said To Him: Do You See That Allaah Has Actually Done What You Aimed At Averting. They (The People) Have Affirmed Their Faith In The Lord. He (The King) Commanded Ditches To Be Dug At Important Points In The Path. When These Ditches Were Dug, And The Fire Was Lit In Them It Was Said (To The People): He Who Would Not Turn Back From His (Boy's) Religion Would Be Thrown In The Fire Or It Would Be Said To Them To Jump In That. (The People Courted Death But Did Not Renounce Religion) Till A Woman Came With Her Child And She Felt Hesitant In Jumping Into The Fire And The Child Said To Her: O Mother, Endure (This Ordeal) For It Is The Truth.

(Sahi Muslim: 3005)

ایک بچے کے ایمان کی آزمائش

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اس کے ہاں ایک جادو گر تھا، جب جادو گر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا چکا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آرہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو میں اسے جادو سکھا دوں چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا لڑکا اس کے ہاں جاتا اور اسے میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت میں وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا، آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا، جادو گر بھی مارتا اور باپ بھی کیوں کہ وہاں دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا ایک دن بچے نے راہب کے سامنے شکایت پیش کی راہب نے کہا جب جادو گر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا اور

گھر والے بگڑیں تو کہنا جادو کرنے روک لیا تھا، یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین سیکھتا تھا ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادو گر کا، اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ! اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادو گر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی اس نے کہا پیارے بچے آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے اب اللہ کی طرف تیری آزمائش ہوگی اگر ایسا ہوا تو (لوگوں کو) میری خبر نہ کرنا۔

اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا اس کی دعا سے مادر زائد ہڈی، کوڑھی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے، بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں

نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا والا اللہ وحدہ لا شریک ہے اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں اس نے اقرار کیا بچے نے اس کے لئے دعا کی اللہ نے اسے شفا دی۔

وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں، بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی اس نے کہا میرے رب نے، بادشاہ نے کہا ہاں یعنی میں نے دی ہیں، وزیر نے کہا نہیں میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے اب بادشاہ نے اسکی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور پوچھنے لگا تجھے یہ تعلیم کس نے دی آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اس نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو اس نے کہا غلط ہے میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں نہ جادو گر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کہنے لگا: اللہ تو میں ہی ہوں، اس نے کہا ہرگز

نہیں، بادشاہ نے کہا: پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اس نے اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروادیا پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ وہاں پہنچ کر بھی اگر دین سے باز آجائے تو اچھا ہے ورنہ وہیں سے لڑھکادیں، چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی "اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے" اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑھک گئے صرف وہی بچہ باقی بچا رہا وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟

بچے نے کہا: "اللہ نے مجھے بچا لیا ہے وہ سب ہلاک ہو گئے"

بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ یہ لوگ اسے لے کر چلے سمندر کے بیچ میں پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی "اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا" دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے صرف وہی

بچہ باقی بچا پھر وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا: میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے اور اے بادشاہ تو چاہے کتنی تدبیریں کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا صرف ایک صورت ہے جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے اس بچے نے کہا تمام لوگوں کو ایک ایک میدان میں اکھٹا کرو اور پھر اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا اور میرے تیر کو میرے کمان پر چڑھا اور "بسم اللہ رب هذا الغلام" (یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے)۔ پڑھ کر تیر میری طرف پھینک وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کپٹی پر لگا اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا، چاروں طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گبرائے اور کہنے لگے: ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں دیکھئے اس کا اثر کیا پڑا سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔

ہم نے تو اسے اس لئے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے، بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو، مسلمانوں نے صبر کیا اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے البتہ ایک عورت جس کی گودھ میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اس نے کہا ماں کیا کر رہی ہے تم تو حق پر ہو صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔

(صحیح مسلم: ۳۰۰۵)

قرآن میں سورۃ البروج کے اندر اس واقعہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔



Ek Bacche ke Eemaan ki Aazmaesh

Rasoolullaah ﷺ Ne Farmaya Ki Purane Zamane Me Ek Badshah Ke Yahan Ek Jaadugar Tha, Jab Jaadugar Budha Hua To Badshah Se Kaha Ke Ab Mai Budha Ho Chuka Hoon Meri Maut Ka Waqt Khareeb Hai, Mujhe Koi Bachcha Do, Mai Use Jaadu Sikha Doo Chunancha Ek Zaheen Ladke Ko Wo Taleem Dene Iaga. Ladka Uske Yahan Jaata To Raaste Me Ek Raahib Ka Ghar Padta Jaha Vo Ibadat, Vaaz O Naseehat Me Mashghool Hota. Ye Bhi Khada Ho Jota Aur Uske Tareeqe Ibadat Ko Dekhta Aur Wa'z O Nasihat Sunta, Aate Jaate Yahan Ruk Jaya Karta Tha. Jadoogar Bhi Maarta Aur Baap Bhi Kyunki Vahan Der Se Pahuchta Aur Yaha Bhi Der Se Aata. Ek Din Bache Ne Raahib Ke Saamne Shikayat Pesh Ki. Raahib Ne Kaha Jab Jaadugar Pooche Ki Kyu Der Hogayi To Kahna Ghar Valon Ne Rok Liya Tha Aur Ghar Vale Bigdein To Kahna Jadoogar Ne Rok Liya Tha, Yu Hi Ek Zamaana Guzar Gaya Ki Ek Taraf To Vo Jaadu Seekhta Aur Dooari Taraf Kalamullah Aur Deen Seekhta Tha. Ek Din Dekhta Hai Ki Raaste Me Ek Zabardast Haibatnak Saanmp Pada Hai, Jisne Logon Ki Aamad O Raft Band Kar Rakhi Hai, Udhar Vale Udhar Aur Idhar Vale Idhar Hai. Aur Sab Log Idhar Udhar Pareshaan Khade Hai. Isne Apne Dil Me Socha Ki Aaj Mauqa Hai Ki Mai Imtehan Loo Raahib Ka Deen Allaah Ko Pasand Hai Ya Jadugar Ka. Ek Paththar Utha Kar Ye Kaha Kar Us Par Phenka Ke Aye Allaah Agar Tere Nazdeek Raahib Ka Deen Jadugar Ki Taleem Se Zyada Mahboob Hai To Is Janvar Ko Is Paththar Se Halaak Karde Taake Logon Ko Is Bala Se Najaat Mil Jae. Paththar Lagte Hi Vo Jaanwar Halaak Hogaya Aur Logo Ka Aana Jaana Shuru Hogaya Aur Phir Ladke Ne Jaakar Raahib Ko Khushkhabri Di; Usne Kaha Pyare Bache Aaj Ke Din Tu Mujh Se Afzal Hai Ab Allaah Ki Taraf Se Teri Aazmaesh Hogi Agar Aisa Huwa To Logo Ko Meri Khabar Na Karna. Ab Is Bache Ke Paas Haajat Mand Logo Ka Taanta Lag Gaya Iski Dua Se Maadar Zaad Andhe, Kodhi, Juzami Aur Har Qisam Ke

Bimaar Ache Hone Lage, Baadshah Ke Ek Naabina Wazeer Ke Kaan Me Ye Baat Padi To Bade Tohfe Tahaef Le Kar Haazir Huwa Aur Kahne Laga Ke Mujhe Shifa Dede To Ye Sab Tujhe Dedunga. Usne Kaha Ke Shifa Mere Haath Me Nahi, Mai To Kisi Ko Shifa Nahi Desakta, Shifa Dene Waala Allaah Hai Agar To Us Par Eemaan Laane Ka Wada Kare To Mai Dua Karunga; Usne Iqraar Kiya Bache Ne Uske Liye Dua Ki Allaah Ne Use Shifa Di. Wo Baadshah Ke Darbaar Me Aaya Aur Jis Tarah Andha Hone Se Pahle Kaam Karta Tha Isi Tarah Kaam Karne Laga Iski Aankhein Bilil Raushan Thi, Baadshah Ne Muta'ajjib Hokar Poocha Ke Tujhe Aankhein Kisne Di? Usne Kaha Mere Rab Ne, Baadshah Ne Kaha Haa Yani Maine Di Hai, Wazeer Ne Kaha Nahi Nahi Mera Aur Tera Rab Sirf Allaah Hai, Ab Baadshah Ne Iski Maarpeet Shuru Kardi Aur Tarah Tarah Ki Taklifein Dein Aur Poochne Laga Tujhe Ye Ta'leem Kisne Di Aakhir Isne Bataya Ke Maine Os Bache Ke Haath Islam Qabool Kiya Hai, Isne Ose Bulaya Aur Kaha Ke Ab Tum Jaadu Me Kaamil Hogae Ho Andho Ko Dekhta Aur Bimaaro Ko Tandrust Karne Lage Ho, Isne Kaha Ghalat Hai Mai Kisi Ko Shifa Nahi Desakta Hu Na Jadugar Hu, Shifa Allaah Ke Haat Me Hai. Wo Kahne Aaga, Allaah To Mai Hi Hoon. Usne Kaha Hargiz Nahi, Badshah Ne Kaha: Phir Tu Mere Siva Kisi Aur Ko Rab Maanta Hai? To Osne Kaha Ki Mera Aur Tumhara Rab Allaah Hai. Usne Is Bache Ko Tarah Tarah Ki Sazayen Deni Shuroo Kardi. Yahan Tak Ke Raahib Ka Pata Laga Liya Aur Raahib Ko Bulakar Kaha Ke Islaam Ko Chohd De; Usne Inkaar Kiya To Badshah Ne Ise Aare Se Chirva Diya. Phir Is Naujawan Se Kaha Ki Tu Bhi Deen E Islam Se Phir Ja, Isne Bhi Inkaar Kiya To Badshah Apne Sipahiyon Ko Hukum Diya Ki Use Falaa Pahad Ki Choti Par Le Jaao, Waha Pahunch Kar Bhi Agar Deen Se Baaz Aajae To Acha Hai Warna Wahi Se Ludhka Dein, Chunanacha Sipahi Ise Pahad Ki Choti Par Legae Jab Ise Dhakka Dena Chaha To Isne Allaah Se Dua Ki "aye Allaah Jis Tarah Tu Chahe Mujhe Isse Najaat De" Is Dua Ke Saath Hi Pahaad Hila Aur Sab Sipahi Ludhak Gae Sirf Bacha Baaqi Bacha Raha, Wahaa Se

Baadshah Ke Paas Gaya Baadshah Ne Kaha Ye Kya Huwa Mere Sab Sipahi Kahaa Hai? Bache Ne Kaha: Allaah Ne Mujhe Bacha Liya Hai Wo Sab Halaak Hogae. Badshah Ne Apne Doosre Sipahiyon Ko Hukum Diya Ke Use Kashti Me Bitha Kar Lejao Aur Samandar Me Phenk Aao, Ye Log Ise Lekar Chale Samandar Ke Beech Me Jab Use Phenkna Chaha To Phir Vahi Dua Ki. "aye Allah Jis Tarah Tu Chahe Mujhe Inse Bacha." Dua Ke Saath Hi Mauj Uthi Aur Saare Ke Saare Sipahi Samandar Me Doob Gae. Sirf Wahi Bacha Baaqi Bacha. Phir Vo Badshah Ke Paas Gaya Kahne Laga: Mere Rab Ne Mujhe Bacha Liya Hai Aur Aye Badshah Tu Chahe Kitni Tadbeere Karle Tu Mujhe Halaak Nahi Kar Sakta. Sirf Ek Surat Hai Jis Tarah Mai Kahoo Agar Too Us Tarah Kare To Meri Jaan Nikal Sakti Hai, Os Bache Ne Kaha Tamaam Logon Ko Ek Maidaan Me Ikattha Karo Aur Phir Khajoor Ke Tane Par Mujhe Sooli Chadha Aur Mere Teer Ko Mere Kamaan Par Chadha Aur "bismillahi Rabbi Haazal Ghulaam" {Yaani Allaah Ke Naam Se Jo Is Bache Ka Rab Hai} Padh Kar Teer Meri Taraf Phenk Vo Mujhe Lagega Aur Mai Mar Jaonga. Badshah Yahi Kiya, Teer Bachche Ki Kanpatti Par Laga, Usne Apne Haath Us Jagah Rakh Liya, Charo Taraf Se Awazein Hone Lagi, Hum Is Bachche Ke Rab Pareemaan Laae, Ye Dekh Kar Badshah Ke Saathi Bade Ghabrae Aur Kahne Lage: Hum To Is Bachche Ki Tarkeeb Samjhe Hi Nahi Dekhiye Iska Asar Kya Padha. Sab Log Deene Islam Me Daakhil Ho Gae. Hamne To Use Isliye Qatal Kiya Tha Ki Kahi Iska Mazhab Phail Na Jae. Laikin Jo Dar Tha Saamne Aahi Gaya. Aur Sab Musalmaan Ho Gaye. Badshah Ne Kaha Acha Ye Karo Ki Tamaam Mohallo Aur Raasto Me Khandakheinn Khudwao Inme Lakdiyan Bharo Aur Aag Lagado, Jo Is Deen Se Phir Jaye Chohd Do Doosre Ko Us Me Phenk Do. Muslamano Ne Sabar Aur Sahare Ke Saath Aag Me Jalna Manzoor Kiya Aur Isme Koodne Lage Albatta Ek Aurat Jis Ki Godh Me Doodh Peeta Chota Sa Bacha Tha Zara Jhijki To Us Bache Ko Allaah Ne Bolne Ki Taqat Dee. Kaha, Amma Kya Kar Rahi Hai, Tum To Haq Par Ho, Sabar Karo Aur Isme Kood Pado.

(Saheeh Muslim: 3005)

CHAPTER

6

● Basic & Most Important Teachings Of Islam ●

● دین کی اہم اور بنیادی تعلیمات ●

● Deen Ki Aham Aur Bunyaadi Ta'limaat ●

◆ What Is Disbelief?

- ◆ Meaning Of Disbelief (Kufr) Is To Hide, Putting Veil And To Reject. Islamic Meaning: Denying The Pillars Of Eeman (Belief) Is Disbelief. Similarly Denying To Worship And Denying To Obey Prophet Muhammad ﷺ Is Also Disbelief.

◆ کفر کا کیا معنی ہے؟

- ◆ کفر کا معنی چھپانے، پردہ ڈالنے اور انکار کرنے کے ہیں۔ اصطلاحاً: جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسی طرح عبادات اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت سے انکار کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں۔

◆ Kufr Ka Maana Kya Hai?

- ◆ Kufr Ka Maana Chupaane, Parda Daalne Aur Inkaar Karne Ke Hain.
Istilaahan: Jin Chizo Par Eemaan Laana Zaruri Hai Unka Inkaar Karna Kufr Hai. Isi Tarah Ibadaat Aur Rasool ﷺ Ki Ita'at Se Inkaar Karne Ko Bhi Kufr Kahte Hain.

◆ Why Did Allaah Sent Messengers?

- ◆ Allah Has Sent Messengers To Believe In The Oneness Of Allah And To Stop Associating Partners With Allah.

◆ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس لیے مبعوث کیا؟

- ◆ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی طرف دعوت دینے اور شرک سے روکنے کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا۔

◆ Allaah Ta'ala Ne Rasoolo Ko Kis Liye Mab'oos Kiya?

- ◆ Allah Ta'ala Ne Apni Tauheed Ki Taraf Da'wat Dene Aur Shirk Se Rokne Ke Liye Rasoolo Ko Mab'oos Kiya.

◆ **What Is The Major Sin In The Sight Of Allaah?**

◆ **The Major Sin In The Sight Of Allaah Is Associating Partners With Him Called As Shirk.can They Enter Paradise Who Associates Partners With Allaah? Never, Paradise Is Prohibited On Those Who Associates Partners With Allaah.**

◆ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟

◆ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ**

(یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے) لقمان: ۱۳

◆ **Allaah Ta'ala Ke Nazdeek Sab Se Bada Gunaah Kya Hai?**

◆ **Allah Ta'ala Ke Nazdeek Sab Se Bada Gunaah Shirk Hai.**

◆ **Can They Enter Paradise Who Associates Partners With Allaah?**

◆ **Never, Paradise Is Prohibited On Those Who Associates Partners With Allaah**

◆ کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا جنت میں جائے گا؟

◆ ہر گز نہیں، مشرک پر جنت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

ترجمہ: یقیناً مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ (مائدہ: ۷۲)

◆ **Kya Allaah Ta'ala Ke Saath Shirk Karne Waala Jannat Me Jaaega?**

◆ **Hargiz Nahi, Mushrik Par Jannat Haraam Hai.**

◆ What Are The Categories Of Shirk?

- ◆ There are 2 Categories of Shirk
 - 1) Major Shirk (Shirk-e-Akbar) And
 - 2) Minor Shirk (Shirk-e-Asghar)

◆ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟

◆ شرک کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ شرک اکبر

۲۔ شرک اصغر

◆ Shirk Ki Kitni Qismein Hain?

- ◆ Shirk ki 2 Qismein Hain:
 - 1) Shirke Akbar,
 - 2) Shirke Asghar

◆ What is Major Shirk?

- ◆ Worshipping Others Apart From Allaah Is Major Shirk
For Example: Supplicating To Other Deities, Calling Them In Problems, Etc.
Doing Such Acts Will Make A Person Enter Hell Fire.

◆ شرک اکبر کیا ہے؟

◆ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا شرک اکبر ہے، جیسے: غیر اللہ سے دعا کرنا، مصیبت میں ان کو پکارنا وغیرہ۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

◆ Shirk Akbar Kya Hai?

- ◆ Allaah Ta'ala Ke Siwa Doosro Ki Ibadat Karna Shirk Akbar Hai, Jaise: Ghairullah Se Dua Karna, Museebat Me Unko Pukaarna Waghaira. Iska Nuqsaan Ye Hai Ke Wo Hamesha Hamesha Ke Liye Jahannam Ki Aag Me Daal Diya Jaaega.

◆ **What is Minor Shirk?**

- ◆ Everything Which Leads To Major Shirk By Actions Or By Wordings Is Called Minor Shirk. Example: Showing Off, Taking Oaths Of Other Than Allaah Etc.

◆ شرک اصغر کیا ہے؟

- ◆ شرک اکبر کا ذریعہ بننے والا ہر قول و فعل شرک اصغر ہے، جیسے: ریاکاری، غیر اللہ کی قسم کھانا وغیرہ۔

◆ **Shirk Asghar Kya Hai?**

- ◆ Shirk Akbar Ka Zariya Banne Waala Har Qaul-o-Fel Shirk Asghar Hai, Jaise: Riyakaari, Ghairullah Ki Qasam Khaana Waghaira.

◆ **When Did Muhammad ﷺ Got Prophethood?**

- ◆ At the age of 40 years.

◆ رسول اللہ ﷺ کو نبوت کس عمر میں ملی؟

- ◆ چالیس سال کی عمر میں۔

◆ **Rasoolullah Ko Nubuwwat Kis Umar Me Mili?**

- ◆ 40 Saal Ki Umar Me.

◆ **When Did Prophet ﷺ Get Married & With Whome?**

- ◆ Prophet ﷺ Got Married at The Age Of 25 Years With Khatija Raziallahu Anha

◆ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو کیا پیغام سنایا؟

- ◆ رسول اللہ ﷺ کا پہلا نکاح خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پچیس سال کی عمر میں ہوا۔

◆ Rasoolullah ﷺ Ka Nikah Kab Aur Kisse Huwa?

◆ Rasoolullah ﷺ Ka Nikah 25 Saal Ki Umar Me Khatija Raziallahu Anha Se Huwa

◆ What Was The First Revelation On Prophet?

◆ The First Revelation On Prophet Was From Surah Alaq 96: Ayath1-5

◆ رسول اللہ ﷺ پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟

◆ سب سے پہلی وحی یہ تھی: (سورہ علق: ۱-۵)

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿۱﴾ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا (۱)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿۲﴾ جس نے انسان کو خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا (۲)

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿۳﴾ تو پڑھتا رہتے تیرا رب بڑے کرم والا ہے (۳)

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿۴﴾ جس نے قلم کے ذریعے (علم) سکھایا (۴)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ ﴿۵﴾ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا (۵)

◆ Rasoolullah Par Jo Sab Se Pahle Naazil Hui Wo Kya Thi?

◆ Sab Se Pahli Wahi Ye Thi: Alaq 96: Ayath1-5

◆ What Was The Message Of Prophet To The People Of Makkah?

◆ The Message Of Prophet To The People Of Makkah Was: I Was Sent To Warn You People From The Severe Punishment, So Save Yourself From The Fire Of Hell. And Say 'Ilaaha Illallah' Meaning : There Is No God Worthy Of Worship Except Allaah And Get Successful.

◆ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو کیا پیغام سنایا؟

◆ رسول اللہ ﷺ نے اہل مکہ سے کہا: میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں،

لہذا اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، حکم الہی کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اور فرمایا:
 قولوا لا الہ الا اللہ (لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے)۔

◆ Rasoolullah ﷺ Ne Ahle Makkah Ko Kya Paighaam Sunaaya?

◆ Rasoolullah ﷺ Ne Ahle Makkah Se Kaha: Mai Tumhe Ek Sakht Azaab Se Khabardaar Karne Ke Liye Bheja Gaya Hoon, Lehaaza Apne Aap Ko Jahannam Ke Azaab Se Bachaao, Hukm Ilaahi Ke Saamne Mai Tumhare Kisi Kaam Nahi Aaonga. Aur Farmaya: **Laa Ilaaha Illallah** Kaho Kaamyab Hojaaoge.

◆ What Was The Reaction Of Pagans Of Makkah Towards The Call Of Truth (i.e. Islam)?

◆ When The Prophet (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Rejected The False Deities And Started Calling Towards The Oneness Of Allah, Pagans Of Makkah Started To Harm The Companions Of The Prophet. No Muslim Was Spared From Their Oppression. When The Limits Of Transgression Were Crossed, The Prophet (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Allowed His Companions To Migrate Towards Ethiopia. However, Prophet (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Stayed In Makkah In The Hope That The Pagans Of Makkah Will Be Guided.

◆ دعوت دین پر کفار قریش کا کیا رد عمل رہا؟

◆ جب آپ ﷺ نے جھوٹے معبودوں کا انکار کرنے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت شروع کی تو کفار نے آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ستانا شروع کیا۔ کوئی مسلمان ایسا نہ تھا جو ان کے مظالم سے بچ سکے۔ جب مصیبت حد سے تجاوز کر گئی تو آپ ﷺ نے مسلمانوں کو

حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ خود رسول اللہ ﷺ نے مکہ ہی میں قیام کیا کہ شاید اہل مکہ مستقبل میں راہ راست پر آجائیں۔

◆ Da'wat-e-Deen Par Kuffaare Quraish Ka Kya Radde Amal Raha?

◆ Jab Nabi ﷺ Ne Jhoote Ma'boodo Ka Inkaar Karne Aur Sirf Ek Allaah Ki Ibadat Karne Ki Da'wat Shuru Ki To Kuffaar Ne Nabi ﷺ Aur Sahaba Raziyaallaahu Anhum Ko Satana Shuru Kiya. Koi Musalman Aisa Na Tha Jo Unke Mazalim Se Bach Sake. Jab Musibat Had Se Tajawuz Kar Gai To Nabi ﷺ Ne Musalmano Ko Habsha Ki Taraf Hijrat Ki Ijzat Dedi. Khud Nabi ﷺ Ne Makkah Hi Me Qiyaam Kiya Ke Shayad Ahle Makkah Mustaqbil Me Raahe Raast Par Aajaein.

◆ What Is Valley Of Abu Talib (She'eb Abi Talib)?

◆ The Quraysh Held A Meeting And Decided To Outcast The Banu Hashim And Banu Al-muttalib By Placing Them Under A Total Social Boycott. The Other Clans From The Quraysh Would Not Marry Their Daughters, Transact Business With Them, Keep Company With Them, Nor Would They Accept Any Peace Overtures From These Two Clans Until They Handed Over The Prophet (sallallahu Alayhi Wa Sallam). The Boycott Was Devastating And For Many Months They Lived In Misery. It Was So Rigorously Applied And Food Was So Scarce That They Had To Eat The Leaves Of Trees. They Remained In That State For Three Years. At Last This Ended; Prophet (sallallahu Alayhi Wa Sallam) Was 49 Years Old At That Time.

The Area Was Also Known As The Valley Of Bani Hashim. It's Currently Known As The Ali Valley In Tribute To Ali Bin Abi Talib.

◆ شعب ابی طالب کا کیا واقعہ ہے؟

◆ کفار نے معاہدہ کیا کہ کھانے کی کوئی چیز مسلمانوں اور ان کے خیر اندیش لوگوں کے ہاتھوں فروخت نہ کی جائے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اہل و عیال سمیت ایک پہاڑ کی گھاٹی "شعب ابی طالب" میں پناہ لی اور اس میں تین سال تک محصور رہے۔ کوئی ایسی تکلیف نہ تھی جو آپ ﷺ نے اور اہل بیت نے برداشت نہ کی ہو۔ بالآخر محاصرہ ختم ہوا۔ اس وقت آپ ﷺ کی عمر انچاس برس کی تھی۔

◆ She'b E Abi Talib Ka Kya Waqia Hai?

- ◆ Kuffaar Ne Mu'ahada Kiya Ke Khaane Ki Koi Cheez Musalmano Aur Unke Khair Andesh Logo Ke Haatho Farokht Na Ki Jae. Chunanche Nabi (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Ne Ahl O Ayaal Samet Ek Pahad Ki Ghati "She'b-e-Abi Talib" Me Panaah Li Aur Usme 3 Saal Tak Mahsoor Rahe. Koi Aisi Takleef Na Thi Jo Nabi Aur Ahle Bait Ne Bardasht Na Ki Ho. Bil-Aakhir Muhasara Khatam Huwa. Us Waqt Nabi (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Ki Umr 49 Baras Ki Thi.

◆ Why Did The Prophet (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Travelled To Taif?

- ◆ After The Death Of Abu Talib And Khadijah, Muhammad's (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Life Was Then On Danger Because The Determinations Of The Pagans Of Makkah Grew Strong, So He (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Left For Taif With The Hope Of Winning Them Over To Islam. But People Of Taif Were Found To Be More Hard Hearted Than The People Of Makkah. He Entered Makkah Under The Protection Of Mutim Bin Adi. The Night Of Ascension (i.e. Miraj) Took Place In This Year And Five Prayers Were Made Obligatory On Muslims On This Night.

◆ آپ ﷺ کا طائف جانا کیوں ہوا؟

- ◆ جب چچا ابوطالب اور بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہما کا انتقال ہو گیا گزشتہ واقعہ کے بعد تو کفار کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے۔ آخر آپ ﷺ طائف تشریف لے گئے اور پیغام حق سنایا۔ مگر وہ اہل مکہ سے زیادہ سنگ دل ثابت ہوئے۔ آپ ﷺ دوبارہ مطعم بن عدی کی حمایت میں مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد معراج ہوئی اور پانچ وقت کی صلاتیں فرض ہوئیں۔

◆ Nabi ﷺ Ka Taif Jaana Kyu Huwa?

- ◆ Jab Chacha Abu Talib Aur Biwi Khadija Raziyaallaahu Anha Ka Inteqaal Hogaya (Guzishta Waqia Ke Baad) To Kuffaar Ke Hausle Aur Bhi Badh Gae. Aakhir Aap (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Taif Tashreef Le Gae Aur Paigham-e-Haq Sunaya. Magar Wo Ahle Makkah Se Zyada Sang Dil Saabit Huwe. Nabi · Dubaara Mut'im Bin 'adi Ki Himayat Me Makkah Me Dakhil Huwe. Uske Baad Me'raaj Huwi Aur 5 Waqt Ki Namazein Farz Huwein.

- ◆ **What Happened After The Prophet (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Returned From The Taif?**
- ◆ Prophet (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Stayed In Makkah After He Returned From Taif. He Was Going Through Trials And Tribulations From Every Direction. He Suffered All These Persecutions But Never Stopped From Calling People Towards Allaah. At Last, Allaah Guided The Helpers Of Madinah To Accept Islam. The Companions Of The Prophet Were Permitted To Migrate Towards Madinah And They Secretly Migrated To Madinah In Terms Of Groups.

◆ طائف سے واپسی کے بعد کیا ہوا؟

- ◆ طائف سے واپسی کے بعد آپ ﷺ برابر مکہ میں مقیم رہے۔ ہر طرف مصائب و آلام کا سامنا تھا۔ سب کچھ سہتے تھے مگر دعوت حق سے منہ نہ موڑتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے انصار کو مشرف بہ اسلام ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہجرت مدینہ کی اجازت دی گئی اور وہ جوق در جوق خفیہ روانہ ہونے لگے۔

◆ Taif Se Waapasi Ke Baad Kya Huwa?

- ◆ Taif Se Waapasi Ke Baad Nabi ﷺ Barabar Makkah Me Muqem Rahe. Har Taraf Masaeb-o-Aalaam Ka Saamna Tha. Sab Kuch Sahte The Magar Da'wat-e-Haq Se Muh Na Modte The. Bil-Aakhir Allaah Ne Madina Ke Ansaar Ko Musharraf Ba Islam Hone Ki Taufiq Ata Farmai. Uske Baad Sahaba Razyallaahu Anhum Ko Hijrat E Madina Ki Ijzat Di Gai Aur Wo Jauq Dar Jauq Khufya Rawaana Hone Lage.

◆ How Did The Prophet (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Migrate?

- ◆ Due To The Uprising Of Islam And Severe Torture Of The Pagans Of Makkah, Allaah Allowed His Messenger To Migrate To Madinah. The Prophet (sallallaahu Alayhi Wa Sallam) Stayed Three Nights In The Cave Of Thawr With Abubakr. Then He (sallallaahu `alayhi Wa Sallam) Headed To Madeenah, Taking The Coastal Route. Abu Bakr, 'abdullaah Ibn urayqit, And 'aamir Ibn Fuhayrah Was Accompanying Him. They Stayed 14 Days In A Village I.e. Quba Which Is Near Madinah And Built A Mosque There. There

They Laid The Basis For Jumuah Prayer. On Friday, They Determined To Travel To Madinah. They Reached Madinah And The Prophet (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Stayed In The House Of Abu Ayyub Ansari. He Built A Mosque In Madinah. He Built His House Connected To The Mosque And Also Built The Camps Of His Wives Across The Surroundings Of The Mosque. After Seven Months Of Stay In Abu Ayyub's House, He (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Left Towards His House. He (sallallahu Alayhi Wa Sallam) Stayed In Makkah For Almost 13 Years After Receiving The Prophethood. By Then The Age Of Prophet (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) Was 53.

◆ آپ ﷺ نے کیسے ہجرت فرمائی؟

دین حق کی اس قدر ترقی اور اہل مکہ کی اس قدر سختیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ سفر جاری کرنے سے پہلے آپ ﷺ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین دن تک غار ثور میں رہے۔ پھر ساحل کی راہ سے روانہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور رہبر عبد اللہ بن اُریقظؓ ہمراہ تھے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر قبائلی گاؤں میں ٹھہرے۔ چودہ دن قیام رہا اور مسجد قبا کی بنیاد ڈالی۔

جمعہ کے دن مدینہ کا قصد کیا۔ وہاں پہنچ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے۔ پھر مسجد نبوی تعمیر کی۔ مسجد سے لگا ہوا اپنا حجرہ تعمیر فرمایا۔ پھر قرب وجوار میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجرے تعمیر کئے۔ سات ماہ بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ نبوت کے بعد تقریباً تیرہ (۱۳) سال تک آپ ﷺ مکہ میں رہے۔ ہجرت کے وقت عمر مبارک تریپن (۵۳) برس کی تھی۔

◆ Nabi ﷺ Ne Kaise Hijrat Farmai?

◆ Deen E Haq Ki Is Qadar Taraqqi Aur Ahle Makkah Ki Is Qadar Sakhtiyo Ke Baad Allaah Ne Apne Rasool · Ko Bhi Hijrat Ki Ijazat Dedi. Safar Jaari Karne Se Pahle Nabi · Abu Bakr Raziyaallaahu Anhu Ke Saath 3 Din Tak Ghaar E Saur Me Rahe. Phir Saahil Ki Raah Se Rawana Huwe. Abu Bakr Raziyaallaahu Anhu, Unke Ghulaam Aamir Bin Fuhaira Aur Rahbar Abdullaah Bin Uraiqit

Hamrakaab The. Madina Ke Qareeb Pahunch Kar Quba Naami Gaon Me Tahre. 14 Din Qiyaam Raha Aur Masjid-e-Quba Ki Bunyaad Daali. Jumu'ah Ke Din Madine Ka Qasd Kiya. Waha Pahunch Kar Abu Ayyub Ansari Raziyaallaahu Anhu Ke Makaam Me Tahre. Phir Masjid-e-Nabawi Ta'meer Ki. Masjid Se Laga Huwa Hujra Ta'meer Farmaya. Phir Qurb-o- Jiwaar Me Azwaaj -e-Mutahharaat Ke Hujre Ta'meer Kiye. 7 Maah Baad Abu Ayyub Ansari Ke Yaha Se Uth Kar Apne Ghar Tashreef Le Aae. Nubuwwat Ke Baad Tagriban 13 Saal Tak Nabi ﷺ Makkah Me Rahe. Hijrat Ke Waqt Umr-e-Mubarak 53 Baras Ki Thi.



Ummahaatul Mu'mineen Mothers of Believers

Wives of Prophet Muhammad ﷺ

Sn.	Name	Death
1	Khadeeja Raziyallaahu Anha	10Nabawi
2	Sauda Binte Zam'ah Raziyallaahu Anha	22Hijri
3	A'isha Siddiqua Raziyallaahu Anha	57Hijri
4	Hafsah Binte Umar Raziyallaahu Anha	45Hijri
5	Zainab Binte Khuzaima Raziyallaahu Anha	4Hijri
6	Umme Salamah Raziyallaahu Anha	63Hijri
7	Zainab Binte Jahash Raziyallaahu Anha	20Hijri
8	Juwairiyah Binte Haaris Raziyallaahu Anha	50Hijri
9	Umme Habiba Raziyallaahu Anha	44Hijri
10	Sufiyah Binte Hui Bin Akhtab Raziyallaahu Anha	50Hijri
11	Maimoona Binte Haaris Raziyallaahu Anha	51Hijri

Children of Muhammad ﷺ

Sons

Qasim Bin Muhammad Raziyallaahu Anhu
Ibrahim Bin Muhammad Raziyallaahu Anhu
Abdullaah Bin Muhammad Raziyallaahu Anhu

Daughters

Fatima Binte Muhammad Raziyallaahu Anha
Umme Kulsoom Binte Muhammad Raziyallaahu Anha
Ruqayya Binte Muhammad Raziyallaahu Anha
Zainab Binte Muhammad Raziyallaahu Anha

Names of Some Sahaba

Sn.	Name	Death
1	Hamzah Raziyallaahu Anhu	3Hijri
2	Abbaas Raziyallaahu Anhu	32Hijri
3	Hasan Raziyallaahu Anhu	50Hijri
4	Husain Raziyallaahu Anhu	61Hijri
5	Abdullaah Bin Umar Raziyallaahu Anhu	73Hijri
6	Abdullah Bin Abbaas Raziyallaahu Anhu	68Hijri
7	Abdullaah Bin Zubair Raziyallaahu Anhu	73Hijri
8	Abdullaah Bin 'Amr bin 'Aas Raziyallaahu Anhu	63Hijri
9	Abdullaah Bin Mas'ood Raziyallaahu Anhu	32Hijri
10	Anas Raziyallaahu Anhu	93Hijri

Name of Some Tabi'een

Sn.	Name	Death
1	Uwais Bin 'Amir Qarni RahimaHullaah	37Hijri
2	Sa'eed Bin Musayyib RahimaHullaah	94Hijri
3	Urwah Bin Zubair RahimaHullaah	94Hijri
4	Kharijah Bin Zaid bin Sabit RahimaHullaah	98Hijri
5	Ubaidullah bin Abdullaah bin Utbah bin Mas'ood RahimaHullaah	98Hijri
6	Qasim Bin Muhammad Bin Abi Bakr RahimaHullaah	108Hijri
7	Hasan Basari RahimaHullaah	110Hijri
8	Muhammad Bin Sireen RahimaHullaah	110Hijri
9	'Ata Bin Abi Rabbah RahimaHullaah	114Hijri
10	Imam Zohri RahimaHullaah	124Hijri



Name of Some Tafaseer and Mufasssireen

Sn.	Mufasssireen	Tafseer
1	Imam Tabri RahimaHullaah	Jami'ul Bayan fi Tafseeril Quran (Tafseere Tabri)
2	Imam Baghawi RahimaHullaah	Ma'alimut Tanzeel (Tafseere Baghawi)
3	Imam ibne Abi Hatim RahimaHullaah	Tafseer ibne Abi Hatim
4	Imam Qurtubi RahimaHullaah	Tafseere Qurtubi
5	Imam Ibne Kaseer RahimaHullaah	Tafseerul Quranil Azeem (Tafseer ibne Kaseer)
6	Imam suyuti RahimaHullaah	Ad-Durarul Mansoor fit Tafseeril Masoor ^{Tafseere Suyuti}
7	Imam Shaukani RahimaHullaah	Tafseer Fat-hul Qadeer
8	Imam Sa'di RahimaHullaah	Tafseer Sa'di
9	Shaikh Shanqeeti RahimaHullaah	Azraul Bayaan
10	Shaikh Hikmat Basheer HafizaHullaah	At-Tafseer-us-Saheeh Al-Masboor



Name of Some Muhaddiseen

Sn.	Name	Book	Birth	Death
1	Imam Bukhari RahimaHullaah	Saheeh Bukhari	194Hijri	256Hijri
2	Imam Muslim RahimaHullaah	Saheeh Muslim	204Hijri	261Hijri
3	Imam AbuDawood RahimaHullaah	Sunan Abu Dawood	202Hijri	275Hijri
4	Imam Tirmizi RahimaHullaah	Sunan Tirmizi	209Hijri	279Hijri
5	Imam Nasai RahimaHullaah	Sunan Nasai	215Hijri	303Hijri
6	Imam Ibne Maajah RahimaHullaah	Sunan Ibne Maajah	209Hijri	273Hijri





Name of Some Fuqahaa

Sn.	Name	Birth	Death
1	Imam Abu Haneefa RahimaHullaah	80Hijri	150Hijri
2	Imam Malik RahimaHullaah	93Hijri	179Hijri
3	Imam Shafa'ee RahimaHullaah	150Hijri	204Hijri
4	Imam Ahmad RahimaHullaah	164Hijri	241Hijri
5	Imam Ibne Taimiyah RahimaHullaah	661Hijri	728Hijri



امہات المؤمنین

شمار	نام	سال وفات
1	خدیجہ رضی اللہ عنہا	10 ہجری
2	سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا	22 ہجری
3	عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا	57 ہجری
4	حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا	45 ہجری
5	زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا	4 ہجری
6	ام سلمہ رضی اللہ عنہا	63 ہجری
7	زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا	20 ہجری
8	جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا	50 ہجری
9	ام حبیبہ رضی اللہ عنہا	44 ہجری
10	صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہا	50 ہجری
11	میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا	51 ہجری

اولاد محمد ﷺ

محمد ﷺ کی اولاد میں چار بیٹیاں اور تین بیٹے تھے۔ جن کے نام درج ذیل ہے:

بیٹیاں

فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا
ام کلثوم بنت محمد رضی اللہ عنہا
رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہا
زینب بنت محمد رضی اللہ عنہا

بیٹے

قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ
ابراہیم بن محمد رضی اللہ عنہ
عبداللہ بن محمد رضی اللہ عنہ

بعض صحابہ کے نام

سال وفات	نام	شمار
3 ہجری	حمزہ رضی اللہ عنہ	1
32 ہجری	عباس رضی اللہ عنہ	2
50 ہجری	حسن رضی اللہ عنہ	3
61 ہجری	حسین رضی اللہ عنہ	4
73 ہجری	عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ	5
68 ہجری	عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ	6
73 ہجری	عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ	7
63 ہجری	عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ	8
32 ہجری	عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ	9
93 ہجری	انس رضی اللہ عنہ	10

بعض تابعین کے نام

سال وفات	نام	شمار
37 ہجری	اویس بن عامر قرنی رحمہ اللہ	1
94 ہجری	سعید بن المسیب رحمہ اللہ	2
94 ہجری	عروہ بن زبیر رحمہ اللہ	3
98 ہجری	ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام رحمہ اللہ	4
98 ہجری	خارجہ بن زید بن ثابت رحمہ اللہ	5
108 ہجری	عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود رحمہ اللہ	6
110 ہجری	قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ	7
110 ہجری	سلیمان بن یسار رحمہ اللہ	8
114 ہجری	عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ	9
124 ہجری	امام زہری رحمہ اللہ	10

بعض تفاسیر اور مفسرین کے نام

تفسیر	مفسرین	شمار
جامع البیان فی تفسیر القرآن (تفسیر طبری)	امام طبری رحمہ اللہ	1
معالم التنزیل (تفسیر بغوی)	امام بغوی رحمہ اللہ	2
تفسیر ابن ابی حاتم	امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ	3
تفسیر قرطبی	امام قرطبی رحمہ اللہ	4
تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر)	امام ابن کثیر رحمہ اللہ	5
الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور (تفسیر سیوطی)	امام سیوطی رحمہ اللہ	6
تفسیر فتح القدر	امام شوکانی رحمہ اللہ	7
تفسیر سعدی	امام سعدی رحمہ اللہ	8
اضواء البیان	الشیخ شنقیتی رحمہ اللہ	9
التفسیر الصحیح المسطور	الشیخ حکمت بشیر حفظہ اللہ	10

بعض محدثین کے نام

شمار	نام	کتاب	پیدائش	وفات
1	امام بخاری رحمہ اللہ	صحیح بخاری	194ھ	256ھ
2	امام مسلم رحمہ اللہ	صحیح مسلم	204ھ	261ھ
3	امام ابو داؤد رحمہ اللہ	سنن ابو داؤد	202ھ	275ھ
4	امام ترمذی رحمہ اللہ	سنن ترمذی	209ھ	279ھ
5	امام نسائی رحمہ اللہ	سنن نسائی	215ھ	303ھ
6	امام ابن ماجہ رحمہ اللہ	سنن ابن ماجہ	209ھ	273ھ

بعض فقہاء کے نام

شمار	نام	پیدائش	وفات
1	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ	80ھ	150ھ
2	امام مالک رحمہ اللہ	93ھ	179ھ
3	امام شافعی رحمہ اللہ	150ھ	204ھ
4	امام احمد رحمہ اللہ	164ھ	241ھ
5	امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ	661ھ	728ھ

نمازِ جنازہ

کا

طریقہ



نماز جنازہ کی چار تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد تعوذ، بسملہ اور سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم مکمل پڑھا جائے۔ تیسری تکبیر کے بعد مسنون دعائیں میت کی بخشش کے لئے پڑھی جائیں۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔

نماز جنازہ قیام کی حالت میں ہی ادا کی جاتی ہے اس میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ۔ میت اگر مرد ہو تو اس کے درمیان میں اور اگر عورت ہو تو اس کے سر کی طرف امام کو کھڑا ہونا چاہیے۔

نماز جنازہ کی مسنون دعائیں یہ ہیں:

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرْنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ".

(سنن ابن ماجہ: 1498)

ترجمہ: اے اللہ! ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضر لوگوں کو، ہمارے غائب لوگوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو بخش دے، اے اللہ! تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو وفات دے، تو ایمان پر وفات دے، اے اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر۔

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنَّهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ".

(صحیح مسلم: 963)

ترجمہ: اے اللہ! اسے بخش دے اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے، اسے معاف فرما اور اس کی باعزت ضیافت فرما اور اس کے داخل ہونے کی جگہ (قبر) کو وسیع فرما اور اس (کے گناہوں) کو پانی، برف اور اولوں

سے دھو دے، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا اور اسے اس گھر کے بدلے میں بہتر گھر، اس کے گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے میں بہتر بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما۔

اگر میت ابھی نابالغ ہو تو یہ دعا پڑھیں

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلْفًا وَأَجْرًا .
(صحیح بخاری قبل الحدیث: 1335)
ترجمہ: یا اللہ! اس بچے کو ہمارا امیر ساماں اور آگے چلنے والا اثواب دلانے والا کر دے۔

Namaza e Janaza Ka Tareeqa

Namaz E Janaza Ki 4 Takbiraat Hoti Hain. Pahli Takbeer Ke Baad Ta'awwuz, Basmalah Aur Surah Fatiha Padhi Jae. Doosri Takbeer Ke Baad Durood-e-Ibrahim Mukammal Padha Jae. Teesri Takbeer Ke Baad Masnoon Duaein Mayyit Ki Bakhshish Ke Liye Padhi Jaein. Aur Chauthi Takbeer Ke Baad Salaam Pher Diya Jae.

Namaz-e-Janaza Qiyam Ki Haalat Me Hi Ada Ki Jaati Hai Isme Na Ruku Hai Aur Na Sajdah. Mayyit Agar Mard Ho To Iske Darmiyaan Me Aur Agar Aurat Ho To Iske Sar Ki Tarf Imam Ko Khada Hona Chahiye.

Namaz e janaza ki Masnoon Duaein

Allaahumma - Ghfir Li Hayyina Wa Mayyitina Wa Shaahidina Wa Ghaibina Wa Sagheerina Wa Kabeerina Wa Zakarina Wa Unsaana, Allaahumma Man Ahyaytahu Minna Fa-ahyih Alal Islaam, Waman Tawaffaitahu Minna Fatawaffahu Alal Eemaan, Allaahumma Laa Tahrimna Ajrahu Wala Tuzillana Ba'dahu.
(Sunan Ibne Majah: 1498)

Translation: Aye Allaah! Hamaare Zindo Ko, Hamare Murdo Ko, Hamare Haazir Logo Ko, Hamare Ghaeb Logo Ko, Hamare Choto Ko, Hamare Bado Ko, Hamare Murdo Ko Aur Hamari Aurto Ko Bakhsh De, Aye Allaah! Tu Ham

Translation: Aye Allaah! Hamaare Zindo Ko, Hamare Murdo Ko, Hamare Haazir Logo Ko, Hamare Ghaeb Logo Ko, Hamare Choto Ko, Hamare Bado Ko, Hamare Murdo Ko Aur Hamari Aurto Ko Bakhsh De, Aye Allaah! Tu Ham Me Se Jisko Zinda Rakhe Isko Islaam Par Zinda Rakh, Aur Jisko Wafaat De To Eemaan Par Wafaat De, Aye Allaah Iske Ajr Se Mahroom Na Kar Aur Iske Baad Hamein Gumraah Na Kar.

Allaahumma-ghfir Lahu Warham-hu Wa'aafihi Wa'fu Anhu, Wa Akrim Nuzulahu Wawasse' Mudkhalahu, Waghsilhu Bilmaai Wassalji Walbarad, Wanaqqihi Minal Khataaya Kamaa Naqqaita-Saubal-Abyaz Minaddanas, Wa Abdilhu Daaran Khairan Min Daarihi, Wa Ahlan Khairan Min Ahlihi, Wa Zaujan Khairan Min Zaujihi, Wa Adkhilul Jannata Wa A'izhu Min Azaabil Qabri Wamin Azabin Naar. (Saheeh Muslim: 963)

Translation: Aye Allaah Ise Bakhsh De Is Par Rahem Farma Ise Aafiyat De Ise Maaf Farma Iski Baaizzat Ziyafat Farma Aur Iske Dakhil Hone Ki Jaga (qabar) Ko Wasee Farma Aur Is Ke Gunaho Ko Paani, Baraf Aur Olo Se Dho De, Ise Gunaho Se Is Tarah Saaf Karde Jis Tarah Tu Ne Safed Kapde Ko Mael Kuchael Se Saaf Kiya Aur Ise Is Ghar Ke Badle Me Bahtar Ghar, Iske Ghar Waalo Ke Badle Me Bahtar Ghar Waale Aur Iski Biwi Ke Badle Me Bahtar Biwi Ata Farma Aur Isko Jannat Me Dakhil Farma Aur Qabar Ke Azaab Se Aur Aag Ke Azaab Se Apni Panaah Ata Farma.

Agar Mayyat Abhi Naabaligh To Ye Dua Padhein

Allaahumma - J'al Lana Faratan Wa Salfan Wa Ajran.

(Saheeh Bukhari Qablal Hadees: 1335)

Translation: Aye Allaah Is Bache Ko Hamara Ameer-e-Saamaa Aur Aage Chalne Waala Aur Sawaab Dilaane Waala Karde.

99

Beautiful Names
Of
Allaah



99 BEAUTIFUL NAMES OF ALLAAH

Sr No.	Names	Transliteration	Meaning	Source
1	الرَّحْمَنُ	Ar-Rahmaanu	The Entirely Merciful	55:1
2	الرَّحِيمُ	Ar-Raheemu	The Especially Merciful	41:2
3	الْمَلِكُ	Al-Maliku	The King	59:23
4	الْقُدُّوسُ	Al-Quddoosu	The sacred/ The absolutely pure	59:23
5	السَّلَامُ	As-Salaamu	The one free from all defects/ The Giver of peace	59:23
6	الْمُؤْمِنُ	Al-Mu'minu	The Giver of security/ The Guardian	59:23
7	الْمُهَيِّمُ	Al-Muhaiminu	The Watcher over his creatures/ The Guardian of faith	59:23
8	الْعَزِيزُ	Al-Azeezu	The All-Mighty	59:23
9	الْجَبَّارُ	Al-Jabbaaru	The Compeller	59:23
10	الْمُتَكَبِّرُ	Al-Mutakabbiru	The Supreme/ The Proud	59:23
11	الْخَالِقُ	Al-Khaliq	The Creator	59:24
12	الْبَارِئُ	Al-Baari'au	The Evolver/ The Inventor of all things	59:24
13	الْمُصَوِّرُ	Al-Musawwuru	The Fashioner/ the bestower of forms	59:24
14	الْأَوَّلُ	Al-Awwalu	The First	57:3
15	الْآخِرُ	Al-Aakhiru	The Last	57:3
16	الظَّاهِرُ	Az-Zaahiru	The Evident/ The most High (Nothing is above him)	57:3
17	الْبَاطِنُ	Al-Baatinu	The most Near (nothing is nearer than Him by His knowledge)	57:3
18	السَّمِيعُ	As-Samee'au	The All-Hearer	42:11
19	الْبَصِيرُ	Al-Baseeru	The All-Seer	42:11
20	الْمَوْلَى	Al-Maula	The Protector	8:40



Sr No.	Names	Transliteration	Meaning	Source
21	النَّصِيرُ	An-Naseeru	The Excellent Helper	8:40
22	العَفْوُ	Al-Afuwwu	Ever oft-Pardoning	4:149
23	الْقَدِيرُ	Al-Qadeeru	The All Powerful (Able to do all things)	4:149
24	اللَّطِيفُ	Al-Lateefu	The most kind and courteous	67:14
25	الْحَبِيرُ	Al-Khabeeru	The well acquainted	67:14
26	الْوِتْرُ	Al-Witru	Allah is Al-Witr (one)	Bukhari 6410
27	الْجَمِيلُ	Al-Jameelu	The Graceful/ The most beautiful	Muslim 91
28	الْحَيُّ	Al-Hayiyu	The one characterized by modesty	Abu Dawood 4012
29	السَّيِّئُ	As-Sitteeru	The one characterized by concealment	Abu Dawood 4012
30	الْكَبِيرُ	Al-Kabeeru	The most great	13:9
31	الْمُتَعَالُ	Al-Muta'aalu	The transcendent/the most High	13:9
32	الْوَاحِدُ	Al-Waahidu	The one	13:16
33	الْقَهَّارُ	Al-Qahhaaru	The subduer	13:16
34	الْحَقُّ	Al-Haqqu	The truth	24:25
35	الْمُبِينُ	Al-Mubeenu	The manifest truth	24:25
36	الْقَوِيُّ	Al-Qawiyyu	The all powerful	11:66
37	الْمَتِينُ	Al-Mateenu	The puissant/The most strong	51:58
38	الْحَيُّ	Al-Hayyu	The ever living on	20:111
39	الْقَيُّومُ	Al-Qayyoomu	The dominating/ The sustainer	20:111
40	الْعَلِيُّ	Al-Aliyyu	The most high/The sublime	42:4



Sr No.	Names	Transliteration	Meaning	Source
41	العَظِيمُ	Al-Azeemu	The most great	42:4
42	الشَّكُورُ	Ash-Shakooru	The most appreciative	35:30
43	الحَلِيمُ	Al-Haleemu	The most forbearing	2:225
44	الوَاسِعُ	Al-Waasi'au	The all-sufficient/ the vast	2:115
45	العَلِيمُ	Al-Aleemu	The all-knower	2:115
46	التَّوَّابُ	At-Tawwaabu	The one who accepts repentance	2:37
47	الحَكِيمُ	Al-Hakeemu	The all-wise	2:129
48	الغَنِيُّ	Al-Ghaniyyu	The rich one (free of all wants)	6:133
49	الكَرِيمُ	Al-Kareemu	The most generous	82:6
50	الْأَحَدُ	Al-Ahadu	The one	112:1
51	الصَّمَدُ	As-Samadu	The self-sufficient/ The absolute	112:2
52	الْقَرِيبُ	Al-Qareebu	The close/The one near to all by his knowledge	11:61
53	الْمُجِيبُ	Al-Mujeebu	The responder/ The answerer	11:61
54	الْغَفُورُ	Al-Ghafooru	The oft-forgiving/ The remitter	85:14
55	الْوَدُودُ	Al-Wadoodu	The affectionate	85:14
56	الْوَالِيُّ	Al-Waliyyu	The helper. The supporter, The lord	42:28
57	الْحَمِيدُ	Al-Hameedu	The one worthy of all praise	42:28
58	الْحَفِيزُ	Al-Hafeezu	The maintainer/ The guardian	34:21
59	الْمَجِيدُ	Al-Majeedu	The glorious	11:73
60	الْفَتَّاحُ	Al-Fattaahu	The revealer/ The judge/ The opener	34:26



Sr No.	Names	Transliteration	Meaning	Source
61	الشَّهِيدُ	Ash-Shaheedu	The witness	34:47
62	المُقَدِّمُ	Al-Muqaddimu	The bringer-forward	Bukhari 1120
63	المُؤَخِّرُ	Al-Mu'akh'khiru	The delayer	Bukhari 1120
64	المَلِيكُ	Al-Maleeku	The king	54:55
65	المُقْتَدِرُ	Al-Muqtadiru	The omnipotent	54:55
66	المُسَعِّرُ	Al-Musa'iru	The one who raises, increases & decreases through his will	Abu Dawood 3451
67	القَابِضُ	Al-Qaabizu	The one who withholds/ The taker of souls & provision	Abu Dawood 3451
68	البَاسِطُ	Al-Baasitu	The one who gives lavishly/ The munificent	Abu Dawood 3451
69	الرَّازِقُ	Ar-Raaziqu	The sustainer/ The best of sustainers	Abu Dawood 3451
70	القَاهِرُ	Al-Qaahiru	The irresistible	6:18
71	الدَّيَّانُ	Ad-Dayyaanu	The one who judges people for their deeds after calling them to account	(Bukhari 7481)
72	الشَّاكِرُ	Ash-Shaakiru	The recognizer and rewarder of good	2:158
73	المَنَّانُ	Al-Mannaanu	The bestower of favours	Abu Dawood 1495
74	القَادِرُ	Al-Qaadiru	The potent/ The powerful	6:65
75	الْخَالِقُ	Al-Khallaaqu	The supreme creator	36:81
76	المَالِكُ	Al-Maaliku	The master & owner of the dominion	3:26
77	الرَّزَّاقُ	Ar-Razaaqu	The all-provider	51:58
78	الْوَكِيلُ	Al-Wakeelu	The best disposer of affairs	3:173
79	الرَّقِيبُ	Ar-Raqeebu	The all-watcher/The vigilant	5:117
80	المُحْسِنُ	Al-Muhsinu	Beneficent	Sahih Al Jaami' 1824



Sr No.	Names	Transliteration	Meaning	Source
81	الحَسِيبُ	Al-Haseebu	The careful account taker of all things/ The sufficer	4:86
82	الشَّافِي	Ash-Shaafi	The healer	Bukhari 5675
83	الرَّفِيقُ	Ar-Rafeequ	The all-kind	Muslim 2593
84	المُعْطِي	Al-Mu'tee	The giver	Bukhari 3116
85	المُقِيتُ	Al-Muqeetu	The most able/ The powerful/ The sustainer	4:85
86	السَّيِّدُ	As-Sayyidu	The master	Abu Dawood 4806
87	الطَّيِّبُ	At-Tayyibu	The pure	Muslim 1015
88	الحَكَمُ	Al-Hakamu	The judge	Abu Dawood 4955
89	الأَكْرَمُ	Al-Akramu	The most generous	96:3
90	الْبَرُّ	Al-Barru	The most subtle, kind, courteous & generous	52:28
91	الْغَفَّارُ	Al-Ghaffaar	The oft-forgiving	38:66
92	الرَّءُوفُ	Ar-Raooфу	The one who is full of kindness	24:20
93	الْوَهَّابُ	Al-Wahhaabu	The bestower	3:8
94	الجَوَادُ	Al-Jawaadu	The bestower of good	Sahih Jami 1744
95	السُّبُوْحُ	As-Subboohu	The perfect	Muslim 487
96	الْوَارِثُ	Al-Waarisu	The inheritor	15:23
97	الرَّبُّ	Ar-Rabbu	The lord	36:58
98	الأَعْلَى	Al-Aa'laa	The most high/ The highest	87:1
99	الإِلَهِ	Al-ilaahu	The God	2:163

List Of 114 Surah

In Arabic, English, Urdu & Roman

English	Urdu	Roman	Arabic	
The Opening	آغاز	Al-Faatehah	سورة الفاتحة	1
The Cow	گائے	Al-Baqarah	سورة البقرة	2
The Family of Imran	عمران کا گھرانہ	Aal-e-Imran	سورة آل عمران	3
The Women	خواتین	Al-Nisaa	سورة النساء	4
The Table spread with foods	دستر خوان	Al-Maidah	سورة المائدة	5
The Cattle	چوپائے	Al-Ana'am	سورة الأنعام	6
The wall with Elevations	جنت اور جہنم کے درمیان کی جگہ	Al-Ara'af	سورة الأعراف	7
The Spoils of War	مالِ غنیمت	Al-Anfa'al	سورة الأنفال	8
The Repentance	توبہ	Al-Tawbah	سورة التوبة	9
The Prophet [Jonah]	ایک نبی کا نام	Yunus	سورة يونس	10
The Prophet Hood	ایک نبی کا نام	Hud	سورة هود	11
The Prophet [Joseph]	ایک نبی کا نام	Yusuf	سورة يوسف	12
The Thunder	بجلی	Ar-Ra'ad	سورة الرعد	13
The Prophet [Abraham]	ایک نبی کا نام	Ibrahim	سورة ابراهيم	14
The Rocky Tract	تودے	Al-Hijr	سورة الحجر	15
The Bee	شہد کی کہی	Al-Nahl	سورة النحل	16
The Journey by Night	رات کا سفر	Al-Israa	سورة الإسراء	17
The Cave	غار	Al-Kahaf	سورة الكهف	18
Mary (Mother of Jesus)	عیسیٰ کی ماں کا نام	Maryam	سورة مريم	19
Taha	طہ	Taha	سورة طه	20
The Prophets	انبیاء	Al-Anbiya	سورة الأنبياء	21
The Pilgrimage	حج	Al-Hajj	سورة الحج	22
The Believers	مؤمنین	Al-Muminoon	سورة المؤمنون	23
The Light	روشنی	Al-Noor	سورة النور	24
The Criterion	حق و باطل میں فرق کرنے والی	Al-Furqaan	سورة الفرقان	25

English	Urdu	Roman	Arabic	
The Poets	شاعر	Ash-Shu'ara	سورة الشعراء	26
The Ant	چیونٹی	Al-Namal	سورة النمل	27
The Narration	قصے	Al-Qasas	سورة القصص	28
The Spider	مکڑی	Al-Ankabut	سورة العنكبوت	29
The Romans	ملکِ روم	Al-Room	سورة الروم	30
Luqman (A wise Man)	لقمان	Luqman	سورة لقمان	31
The Prostration	سجدہ	As-Sajdah	سورة السجدة	32
The Confederates	گروہ	Al-Ahzaab	سورة الأحزاب	33
Saba (The Queen)	(سبا) ملکہ	Saba	سورة سبا	34
The Originator of Creation	پیدا کرنے والا	Fatir	سورة فاطر	35
Ya'seen	یا سین	Ya'seen	سورة يس	36
Those Ranged in Ranks	صف باندھنے والے فرشتے	As-Sa'afaat	سورة الصافات	37
Arabic Alphabet	حرف	Sa'd	سورة ص	38
The Groups	مختلف جماعتیں	Az-Zumar	سورة الزمر	39
The Forgiver/ The Believer	توبہ قبول کرنے والا	Gafir	سورة غافر	40
In Detail	فرق کرنے والی	Fusilat	سورة فصلت	41
The Consultations	مشورہ	Ash-Shu'ra	سورة الشورى	42
The Gold Adornment	سونا	Al-zukhruf	سورة الزخرف	43
The Smoke	دھواں	Al-Dukhan	سورة الدخان	44
The Kneeling	گھٹنوں کے بل بیٹھنا	Al-Jasiyah	سورة الجاثية	45
The Curved-Sand Hills	مٹی کے بڑے بڑے تودے	Al-Ahqaaf	سورة الأحقاف	46
The Prophet Muhammad	محمد ﷺ	Muhammed	سورة محمد	47
The Victory	کامیابی	Al-Fatah	سورة الفتح	48
The Dwellings	کمرے	Al-Hujuraat	سورة الحجرات	49
Arabic Alphabet	ق	Q'af	سورة ق	50

English	Urdu	Roman	Arabic	
The wind that Scatters	بکھرنے والی ہوا	Al-zaariyaat	سورة الذاريات	51
The Name of Mountain	پہاڑ	Al-Toor	سورة الطور	52
The Star	ستارہ	Al-Najam	سورة النجم	53
The Moon	چاند	Al-Qamar	سورة القمر	54
The Most Gracious	بڑا مہربان	Ar-Rahman	سورة الرحمن	55
The Event	واقع ہونے والی	Al-Waqiah	سورة الواقعة	56
Iron	لوہا	Al-Hadeed	سورة الحديد	57
The Disputation	مناظرہ	Al-Mujadila	سورة المجادلة	58
The Gathering	حشر	Al-Hasher	سورة الحشر	59
The Woman to be Examined	جسے آزما یا گیا	Al-Mumtahina	سورة الممتحنة	60
The Row or The Rank	صف بندی	As-Saff	سورة الصف	61
Friday	جمعہ	Al-Jumah	سورة الجمعة	62
The Hypocrites	منافقین	Al-Munafiqoon	سورة المنافقون	63
Mutual Loss or Gain	قیامت کا ایک نام	Al-Tagabun	سورة التغابن	64
The Divorce	طلاق	Al-Talaq	سورة الطلاق	65
The Prohibition	تحریم	Al-Tahreem	سورة التحريم	66
Dominion	ملک	Al-Mulk	سورة الملك	67
The Pen	قلم	Al-Qalam	سورة القلم	68
The Inevitable	ثابت ہونے والی	Al-Haaq'qah	سورة الحاقة	69
The Way of Ascent	سڑبھیاں	Al-Ma'arij	سورة المعارج	70
The Prophet Noah	ایک نبی کا نام	Nooh	سورة نوح	71
Genie	جن	Al-Jinn	سورة الجن	72
The One wrapped in Garment	چادر لپیٹنے والا	Al-Muzammil	سورة المزمل	73
The One Enveloped	چادر اوڑھنے والا	Al-Mudassir	سورة المدثر	74
The Resurrection	قیامت	Al-Qiyamah	سورة القيامة	75

English	Urdu	Roman	Arabic	
The Man	انسان	Al-insaan	سورة الانسان	76
Those Sent Forth	ہوواں کی ایک صفت	Al-Mursalat	سورة المرسلات	77
The Great News	عظیم خبر	Al-Naba	سورة النبأ	78
Those Who Pull Out	فرشتوں کی اک صفت	Al-Naazia'at	سورة النازعات	79
The Frowned	ترش روح	Abasa	سورة عبس	80
Wound Round and Lost its Light	لپیٹنا	Al-Takweer	سورة التكویر	81
The Cleaving	پھٹ جانا	Al-Infitar	سورة الإنفطار	82
Those Who Deal in Fraud	ناپ طول میں کمی کرنا	Al-Mutaffifeen	سورة المطففين	83
The Splitting Asunder	پھٹ جانا	Al-Inshiqaaq	سورة الإنشقاق	84
The Big Stars	بروج	Al-Burooj	سورة البروج	85
The Night-Comer	رات میں طلوع ہونے والا ستارہ	Al-Ta'ariq	سورة الطارق	86
The Most High	سب سے بلند	Al-A'la	سورة الأعلى	87
The Overwhelming	چھپانے والی	Al-Ghashiya	سورة الغاشية	88
The Break of the Day/ The Dawn	فجر	Al-Fajr	سورة الفجر	89
The City	شہر	Al-Balad	سورة البلد	90
The Sun	سورج	Ash-Shams	سورة الشمس	91
The Night	رات	Al-Lail	سورة الليل	92
The Forenoon after Sunrise	چاشت	Al-zuha	سورة الضحی	93
The Opening Forth	سینہ کھولنا	Al-nashrah	سورة الشرح	94
The Fig	انجیر	Al-Teen	سورة التين	95
The Clot	خون کا لوتھڑا	Al-Alaq	سورة العلق	96
The Night of Decree	لیل القدر	Al-Qadar	سورة القدر	97
The Clear Evidence	ظاہر کرنے والی	Al-Baiyinah	سورة البينة	98
The Earthquake	زلزلہ	Al-Zilzaal	سورة الزلزلة	99
Those Who Runs	ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑے	Al-A'adiyat	سورة العاديات	100

English	Urdu	Roman	Arabic	
The Striking Hour	کھڑکھڑا دینے والی	Al-Qaariah	سورة القارعة	101
The Piling up of Emulous Desire	زیادتی	Al-Takaasur	سورة التكاثر	102
The Time	زمانہ	Al-Asr	سورة العصر	103
The Slanderer	چغلی کرنا	Al-Humazah	سورة الحمزة	104
The Elephant	ہاتھی	Al-Feel	سورة الفيل	105
A Famous Arab Tribe	قبیلہ قریش	Al-Quraish	سورة قريش	106
The Small Kindnesses	استعمال کی چیزیں	Al-maa-oon	سورة الماعون	107
A River in Paradise	حوضِ کوثر	Al-Kausar	سورة الكوثر	108
The Disbelievers	کافر	Al-Kaafiroon	سورة الكافرون	109
The Help	مدد	An-Nasr	سورة النصر	110
The Palm Rope	کھجور کی رسی	Al-masad	سورة المسد	111
The Purity	اخلاص	Al-Ikhlaas	سورة الإخلاص	112
The Day Break	صبح کا پھٹنا	Al-Falaq	سورة الفلق	113
The People	لوگ	An-Naas	سورة الناس	114

صبح و شام کے صحیح اذکار

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

(صبح و شام / 1 مرتبہ)

ترجمہ ذکر: اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگھ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہ ہے یوں کہے، اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کئے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر نعتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔

English Translation: It was narrated from 'Abd-Allaah ibn Ubayy ibn Ka'b that his father told him that he had a vessel in which he kept dates. He used to check on it and found that the number was decreasing. So he kept guard on it one night and saw a beast that looked like an adolescent boy. He said: "I greeted him with salaams and he returned my greeting, then I asked him, 'What are you, a jinn or a human?' He said, 'A jinn.' I said to him, 'Show me your hand.' So he showed me his hand, and it looked like a dog's paw with dog's fur. I said, 'Do all the jinn look like this?' He said, 'I know no one among the jinn who is stronger than I.' I said, 'What made you do what you did [i.e., taking the dates]?' He said, 'We heard that you are a man who loves charity, and we wanted to have some of your food.'" Ubayy asked him, "What will protect us from you?" He said, "This aayah, Aayah al-Kursiy." Then the next day he [Ubayy] went to the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and told him (about what had happened) and he said, "The evil one spoke the truth."...

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

(صبح و شام / 1 مرتبہ)

ترجمہ ذکر: اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کئے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر نعتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔

English Translation: Narrated Shaddad bin Aus: The Prophet (ﷺ) said "The most superior way of asking for forgiveness from Allah is: 'Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta, Anta Khalaaqatani wa ana `Abduka, wa ana `ala ahdika wa wa'dika mas'tata'tu, A`udhu bika min Sharri ma sana'tu, abu'u Laka bini'matika

'alaiya, wa abu'u laka bidhanbi faghfir lee fa innahu la yaghfiru adhdhunuba illa anta." The Prophet (ﷺ) added. "If somebody recites it during the day with firm faith in it, and dies on the same day before the evening, he will be from the people of Paradise; and if somebody recites it at night with firm faith in it, and dies before the morning, he will be from the people of Paradise."

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

(صحیح و شام / 1 مرتبہ)

ترجمہ ذکر: ”اے اللہ! میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا طالب ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے عفو و درگزر کی، اپنے دین و دنیا، اہل و عیال، مال میں بہتری و درستگی کی درخواست کرتا ہوں، اے اللہ! ہماری ستر پوشی فرما۔ اے اللہ! ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرما، اور ہمیں خوف و خطرات سے مامون و محفوظ رکھ، اے اللہ! تو ہماری حفاظت فرما آگے سے، اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اچانک اپنے نیچے سے پکڑ لیا جاؤں۔“

English Translation: Narrated Abdullah ibn Umar: The Messenger of Allah ﷺ never failed to utter these supplications in the evening and in the morning: O Allah, I ask Thee for security in this world and in the Hereafter: O Allah! I ask Thee for forgiveness and security in my religion and my worldly affairs, in my family and my property; O Allah! conceal my fault or faults (according to Uthman's version), and keep me safe from the things which I fear; O Allah! guard me in front of me and behind me, on my right hand and on my left, and from above me: and I seek in Thy greatness from receiving unexpected harm from below me. " Abu Dawud said: Waki said: That is to say, swallowing by the earth.

اللَّهُمَّ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه. وَأَنْ أَقْتَرَفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أُجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

(صحیح و شام / 1 مرتبہ)

ترجمہ ذکر: ”اے اللہ! غائب و حاضر، موجود اور غیر موجود کے جاننے والے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے مالک! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں شیطان کے شر اور اس کی دعوت شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

English Translation: Allah be pleased with him, said: "Abu Bakr said: 'O Messenger of Allah, command me with something that I may say when I reach morning and evening.' He said: 'Say: "O Allah Knower of the Unseen and the Seen, Originator of the heavens and the earth, Lord of everything and its Possessor, I bear witness that there is none worthy of worship except You, I seek refuge from You from the evil of my soul and from the evil of Shaitan and his Shirk (Allāhumma `ālimal-ghaibi wash-shahādati fāṭiras-samāwāti wal-arḍ, rabba kulli shai'in wa malīkahu, ash-hadu an lā ilāha illā anta, a'ūdhu bika min sharri nafsī wa min sharrish-shaitāni washirkihi)." He said: 'Say it when you reach morning, and evening, and when you go to bed.'"

5: تَمْرُزْدَكِرُ: **أَصْبَحْنَا وَ أَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ.** (صبح / 1 مرتبہ)

8: تَمْرُزْدَكِرُ: **أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ.** (شام / 1 مرتبہ)

ترجمہ زکریا: ہم نے شام کی اور اللہ کی بادشاہت نے شام کی اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ ملک اسی کے لئے ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے میرے رب میں تجھ سے اس رات کی بھلائی اور اس کے بعد کی بھلائی مانگتا ہوں اور میں تجھ سے اس رات کے شر سے اور اس کے بعد آنے والے شر سے پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب میں تجھ سے سستی اور بڑھاپے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب میں تجھ سے جہنم میں عذاب سے اور قبر میں عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔

English Translation: Abdullah reported that when it was evening Allah's Messenger (ﷺ) used to supplicate: "We have entered upon evening and so, too, the whole Kingdom of Allah has entered upon evening. Praise is due to Allah. There is no god but Allah, the One having no partner with Him." He (the narrator) said: I think that he also uttered (in this supplication these words): "His is the Sovereignty and to Him is praise due and He is Potent over everything. My Lord, I beg of Thee good that lies in this night and good that follows it and I seek refuge in Thee from the evil that lies in this night and from the evil of that which follows it. My Lord, I seek refuge in Thee from sloth, from the evil of vanity. My Lord, I seek refuge in Thee from torment of the Hell-Fire and from torment of the grave." And when it was morning he said like this: "We entered upon morning and the whole Kingdom of Allah entered upon morning."

9: تَمْرُزْدَكِرُ: **أَصْبَحْتُ أَثْنِي عَلَيْكَ حَمْدًا ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.** (صبح / 3 مرتبہ)

ترجمہ زکریا: "میں تیری تعریف بیان کرتے ہوئے اپنی صبح کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں"

English Translation: Whoever wakes up in the morning should say: 'I gets up in the morning by praising you and bear witness that there is no god worthy of worship except Allah' and should say the same in the evening.

10: تَمْرُزْدَكِرُ: **أَمْسَيْتُ أَثْنِي عَلَيْكَ حَمْدًا ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.** (شام / 1 مرتبہ)

ترجمہ زکریا: "میں تیری تعریف بیان کرتے ہوئے اپنی شام کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں"

English Translation: _____ and should say the same in the evening.

7: نکر: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ.

سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ.

ترجمہ ذکر: تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کی مخلوقات کے بھرپور ہونے کے بقدر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں آسمان وزمین کی چیزوں کی تعداد کے برابر، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کی تقدیر کے احاطے میں آنے والی چیزوں کی تعداد کے برابر، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں احاطہ تقدیر میں آنے والی چیزوں کے بھرپور ہونے کے بقدر، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہر چیز کی تعداد کے برابر، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہر چیز کے بھرپور ہونے کے بقدر اور اسی طرح اللہ کی پاکیزگی ہے۔

English Translation: Abu Umaamah says Prophet seen me moving the lips and asked, O abu Umaamah what are you reading? I said: Remembring Allah, Then He said, shall I tell you a good supplication to be read in the morning and in the evening, and said: All parises are for Allah, His praise being equivalent to his creation, Equivalent to His creation that can read. All parises are for Allah being equivalent to the things of heavens and the eart, All parises are for Allah being equivalent to all things that comes which is destined by Him, All parises are for Allah, by which every things get fulfilled, All parises are for Allah, being equivalent to all things that exist. All parises are for Allah, fulfilling everything that exist. Similary is the Allah's glory.

8: نکر: أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (ص/ 1 مرتبہ)

ترجمہ ذکر: ”صبح کی ہم نے دین اسلام پر اور کلمہ توحید پر کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم کے دین پر جو باطل سے بیزار ہو کر دین حق کی طرف متوجہ تھے اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔“

English Translation: Abdur Rahman bin abza said that Prophet used to supplicate this in the morning: "We rise upon the fitrah of Islam, and the word of pure faith, and upon the religion of our Prophet Muhammad (saws) and the religion of our forefather Ibraheem, who was a Muslim and of true faith and was not of those who associate others with Allah."

9: نکر: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱) اللَّهُ الصَّمَدُ (۲) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (۳) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۴)

ترجمہ ذکر: آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک (ہی) ہے (1) اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے (2) نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا (3) اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے (4)

English Translation: Mu`adh bin `Abdullah bin Khubaib, narrated from his father, who said: "We went out on a rainy and extremely dark night, looking for the Messenger of Allah (ﷺ), so that he could lead us in Salat." He said: "So I met him and he (ﷺ) said: 'Speak' but I did not say anything. Then he (ﷺ) said: 'Speak.' But I did not say anything. He (ﷺ) said: 'Speak.' So I said: 'What should I say?' He (ﷺ) said: 'Say: Suratul Ikhlaas and Al-Mu`awwidhatain, when you reach evening, and when you reach morning, three times, they will suffice you against everything."

10: ذکر: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (۱) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (۲) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (۳) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ (۴) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (۵)
(صبح و شام / 3 مرتبہ)

ترجمہ ذکر: آپ کہہ دیجئے! کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں (1) ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے (2) اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے (3) اور گرہ (لگا کر ان) میں پھونکنے والیوں کے شر سے (بھی) (4) اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے (5)

English Translation: Mu`adh bin `Abdullah bin Khubaib, narrated from his father, who said: "We went out on a rainy and extremely dark night, looking for the Messenger of Allah (ﷺ), so that he could lead us in Salat." He said: "So I met him and he (ﷺ) said: 'Speak' but I did not say anything. Then he (ﷺ) said: 'Speak.' But I did not say anything. He (ﷺ) said: 'Speak.' So I said: 'What should I say?' He (ﷺ) said: 'Say: Suratul Ikhlaas and Al-Mu`awwidhatain, when you reach evening, and when you reach morning, three times, they will suffice you against everything."

11: ذکر: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (۱) مَلِكِ النَّاسِ (۲) إِلَهِ النَّاسِ (۳) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (۴) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (۵) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (۶)
(صبح و شام / 3 مرتبہ)

ترجمہ ذکر: آپ کہہ دیجئے! کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں (1) لوگوں کے مالک کی (اور) (2) لوگوں کے معبود کی (پناہ میں) (3) وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے (4) جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے (5) (خواہ) وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے (6)

English Translation: Mu`adh bin `Abdullah bin Khubaib, narrated from his father, who said: "We went out on a rainy and extremely dark night, looking for the Messenger of Allah (ﷺ), so that he could lead us in Salat." He said: "So I met him and he (ﷺ) said: 'Speak' but I did not say anything. Then he (ﷺ) said: 'Speak.' But I did not say anything. He (ﷺ) said: 'Speak.' So I said: 'What should I say?' He (ﷺ) said: 'Say: Suratul Ikhlaas and Al-Mu`awwidhatain, when you reach evening, and when you reach morning, three times, they will suffice you against everything."

12: ذکر: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
(صبح و شام / 3 مرتبہ)

ترجمہ ذکر: "اللہ کے نام کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے"

English Translation: Narrated Uthman ibn Affan: Aban ibn Uthman said: I heard Uthman ibn Affan (his father) say: I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: If anyone says three times: "In the name of Allah, when Whose name is mentioned nothing on Earth or in Heaven can cause harm, and He is the Hearer, the Knower" he will not suffer sudden affliction till the morning, and if anyone says this in the morning, he will

not suffer sudden affliction till the evening. Aban was afflicted by some paralysis and when a man who heard the tradition began to look at him, he said to him: Why are you looking at me? I swear by Allah, I did not tell a lie about Uthman, nor did Uthman tell a lie about the Prophet ﷺ, but that day when I was afflicted by it, I became angry and forgot to say them.

13: نکر: اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

(صحیح دشم / 3 مرتبہ)

ترجمہ ذکر: ”اے اللہ! تو میرے جسم کو عافیت نصیب کر، اے اللہ! تو میرے کان کو عافیت عطا کر، اے اللہ! تو میری نگاہ کو عافیت سے نواز دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔“ ”اے اللہ! میں کفر و محتاجی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ! میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو ہی معبود برحق ہے۔“

English Translation: not suffer sudden affliction till the evening. Aban was afflicted by some paralysis and when a man who heard the tradition began to look at him, he said to him: Why are you looking at me? I swear by Allah, I did not tell a lie about Uthman, nor did Uthman tell a lie about the Prophet ﷺ, but that day when I was afflicted by it, I became angry and forgot to say them.

14: نکر: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ، اَصْلِحْ لِيْ شَاْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

(صحیح دشم / 1 مرتبہ)

ترجمہ ذکر: ”اے زندہ جاوید! اے قائم و دائم! میں تیری ہی رحمت کے ذریعہ مدد طلب کرتی ہوں، تو میرا ہر کام سنوار دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔“

English Translation: Anas Bin Malik says that Prophet said to Fatima R, O Fatima remember by suggestion to read this supplication in the morning and in the evening: "O Ever Living, O Self-Subsisting and Supporter of all, by Your mercy I seek assistance, rectify for me all of my affairs and do not leave me to myself, even for the blink of an eye."

15: نکر: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ.

(صحیح / 3 مرتبہ)

ترجمہ ذکر: اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔

English Translation: Juwairiya reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) came out from (her apartment) in the morning as she was busy in observing her dawn prayer in her place of worship. He came back in the forenoon and she was still sitting there. He (the Holy Prophet) said to her: You have been in the same seat since I left you. She said: Yes. Thereupon Allah's Apostle (may peace be upon him) said: I recited four words three times after I left you and if these are to be weighed against what you have recited since morning these would outweigh them and (these words) are: "Hallowed be Allah and praise is due to Him according to the number of His creation and according to the pleasure of His Self and according to the weight of His Throne and according to the ink (used in recording) words (for His Praise)."

(شام / 3 مرتبہ)

16: نکر: **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.**

ترجمہ ذکر: میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی مخلوق کے شر سے۔

English Translation: Sayyidina Abu Hurayrah reported that the Prophet (SAW) said, "If anyone says when it is evening three times: I seek refuge in the perfect words of Allah from the mischief of what He has created. Then no poison will harm him that night." Suhayl said, Our family used to teach it and recite it every night. A girl among them was stung by something one night, but she felt no pain.

(صبح و شام / 3 مرتبہ)

17: نکر: **رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.**

ترجمہ ذکر: "میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی و خوش ہوں"

English Translation: Narrated A man: Abu Sallam told that he was in the mosque of Hims. A man passed him and the people said about him that he served the Prophet ﷺ. He (Abu Sallam) went to him and said: Tell me any tradition which you heard from the Messenger of Allah ﷺ and there were no man between him and you. He said: I heard the Messenger of Allah ﷺ say: If anyone says in the morning and in the evening: "I am pleased with Allah as Lord, with Islam as religion, with Muhammad as Prophet, " Allah will certainly please him.

(صبح و شام / 7 مرتبہ)

18: نکر: **حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.**

ترجمہ ذکر: "کافی ہے مجھے اللہ، صرف وہی معبود برحق ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے"

English Translation: Abu al-Darda said: if anyone says seven times morning and evening; "Allah sufficeth me: there is no god but He; on him is my trust- he, the Lord of the Throne (of glory) Supreme", Allah will be sufficient for him against anything which grieves him, whether he is true or false in (repeating) them.

19: نکر: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.**

ترجمہ ذکر: نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، وہ الکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں

ہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

English Translation: Narrated from Abu ayyub that the Prophet said: whoever recites this statement 10 times: "None has the right to be worshipped except Allah, alone, without partner, to Him belongs all sovereignty and praise and He is over all things omnipotent. [ten times, or just once]" then Alla will write 10 good deeds for him, forgive him 10 times, will raise his status 10 times and will be equivalent to freeing of 10 slaves And this will be the weapon for him staring of the day till night. No one can overcome him on that day and if he says the same in the evening then will be same for him.

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ.

(صبح و شام / 1 مرتبہ)

ترجمہ ذکر: ”اے اللہ! تیرے حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے ہی حکم سے ہم نے شام کی، تیرے حکم سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی حکم سے ہم مر جائیں گے، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔“

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

(شام / 10 مرتبہ)

ترجمہ ذکر: ”ہم نے تیرے ہی حکم سے شام کی اور تیرے ہی حکم سے صبح کی تھی، تیرے ہی حکم سے ہم زندہ ہیں اور تیرا جب حکم ہوگا، ہم مر جائیں گے اور تیری ہی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے۔“

English Translation: Abu Hurairah (ra) said: The Messenger of Allah (ﷺ) used to teach his Companions, saying: "When one of you reached the morning, then let him say: 'O Allah, by You we enter the morning, and by You we enter the evening, and be You we live, and by You we died, and to You is the Return (Allāhumma bika aṣḥānā wa bika amsainā wa bika naḥyā wa bika namūtu wa ilaikal-maṣīr). And when he reaches the evening let him say: 'O Allah, by You we enter the evening, and by You we enter the morning, and by You we live, and by You we die, and to You is the Resurrection

(صبح و شام / 100 مرتبہ)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

ترجمہ ذکر: اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔

English Translation: Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: He who recites in the morning and in the evening (these words): "Hallowed be Allah and all praise is due to Him" one hundred times, he would not bring on the Day of Resurrection anything excellent than this except one who utters these words or utters more than these words.

(صبح و شام / 100 مرتبہ)

اللَّهُ أَكْبَرُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ

سُبْحَانَ اللَّهِ

اللہ سب سے بڑا ہے۔

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔

اللہ پاک ہے۔

English Translation: Prophet Said: whoever says 100 times SubhanAllah before rising and before its setting is better than 100 camels.

whoever says 100 times Alhamdulillah before rising and before its setting is better than 100 horses which he rides.

whoever says 100 times AllahuAkbar before rising and before its setting is better than freeing 100 slaves.

(دن میں کسی بھی وقت / 100 مرتبہ)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

ترجمہ ذکر: میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔

English Translation: Al-Agharr al-Muzani who was from amongst the Companions of Allah's Apostle (may peace be upon him) reported that Ibn 'Umar stated to him that Allah's Messenger (may peace be upon him) said: O people, seek repentance from Allah. Verily, I seek repentance from Him a hundred times a day.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(دن میں کسی بھی وقت / 100 مرتبہ)

24: ذکر

ترجمہ ذکر: نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے۔ اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

English Translation: Narrated Abu Huraira: Allah's Messenger (ﷺ) said, "If one says one-hundred times in one day: "None has the right to be worshipped but Allah, the Alone Who has no partners, to Him belongs Dominion and to Him belong all the Praises, and He has power over all things (i.e. Omnipotent)", one will get the reward of manumitting ten slaves, and one-hundred good deeds will be written in his account, and one-hundred bad deeds will be wiped off or erased from his account, and on that day he will be protected from the morning till evening from Satan, and nobody will be superior to him except one who has done more than that which he has done."

CHAPTER

7

Tajweed

تجوید



زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔

Zabar zer pesh ko harakaat kahte hain.

زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔

Zabar zer pesh ko jaldi padhein thoda bhi na khenchein.

زبر سیدھا منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔

**Zabar seedha mooh khol kar ada kiya jaata hai
zabar ki aawaaz oopar ko jaati hai.**

زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر ادا کیا جاتا ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔

**Zer honto ko niche ki taraf jhuka kar ada kiya jaata hai
zer ki aawaaz niche ko jaati hai.**

پیش ہونٹوں کو گول نا تمام بند کر کے ادا کیا جاتا ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔

**Pesh honto ko gol natamaam band karke ada kiya jaata hai
pesh ki aawaaz aage ko jaati hai.**



کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔

**Khada zabar, khadi zer, ulta pesh ko ek alif ki
miqdaar kheench kar padha jaaega.**



دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔

Do zabar, do zer, do pesh ko tanween kahte hain.

حروف مدہ تین ہیں: (ا۔ و۔ ی)۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو، و اوساکنہ سے پہلے پیش ہو اور یاء ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ (تَاب)

Huroof-e-maddah teen hai: alif. waao. yaa, agar alif se pahle zabar ho, waao saakina se pahle pesh ho aur yaa saakina se pahle zer ho to ye huroof ek alif ke barabar kheench kar padhe jaate hain. (Taaba)

حروف لین دو ہیں: (و، ی)، جب یہ ساکن ہوں اور ان سے پہلے حرف پر زبر ہو تو ان کو نرمی سے ادا کرنا چاہیے۔ (بُو، بَی)

Huroof-e-leen do hain: waao yaa, jab ye saakin ho aur unse pahle harf par zabar ho to inko narmi se ada karna chahiye. (Bau, Bae)

ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔

Ek alif se zaaed kheench kar padhne ko mad kahte hain.

مد متصل: حروف مدہ کے بعد ہمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل (مد واجب) ہوگا۔
(جَاءَ)

Madd-e-Muttasil: Huroof-e-maddah ke baad hamzah usi kalme me ho to madd e muttasil hoga.

مد منفصل: حروف مدہ کے بعد اگر ہمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل (مد جائز) ہوگا۔ (آلِ اِلَہ)

Madd-e-Munfasil: Huroof-e-maddah ke baad agar hamza doosre kalme me ho to madd-e-munfasil hoga.

مد لازم: حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ (حَاجُّوْكَ)

Madd-e-Laazim: Huroof-e-maddah ke baad waale harf par agar jazam ya tashdeed ho to madd-e-laazim hoga.

غنة ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔

Ghunna naak me awaaz chupaane ka naam hai.

حروف حلقی چھ ہیں: (ء - ہ - ع - ح - غ - خ)

Huroof-e-Halqi 6 Hain: (Hamzah, Haa, Aen, Haa, Ghain, Khaa)

حروف قلقلہ پانچ ہیں: (ق - ط - ب - ج - د) ان حروف کو (قُطْبُ جَدِّ) بھی کہتے ہیں۔
اور ان کو وضاحت سے پڑھتے ہیں۔

Huroof-e-Qalqala 5 Hain: (Qaaf, Taa, Baa, Jeem, Daal.) In huroof ko qutubu jaddin bhi kahte hain. Aur inko wazahat se padhte hain.

نون ساکن اور تنوین کے چار حال:

- 1- اظہار (ظاہر کرنا) غنہ نہ کرنا۔
- 2- ادغام (دو حرفوں کو ملا کر پڑھنا)۔
- 3- اقلاب (بدلنا) نون ساکن یا تنوین کو م سے بدل کر پڑھنا۔
- 4- اخفاء (چھپانا) ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا۔

Noon-e-saakin aur tanween ke 4 haal :

1. Izhaar (zaahir karna) ghunna na karna.
2. Idghaam (do harfo ko mila kar padhna).
3. Iqlaab (badalna) noon e saakin ya tanween ko meem se badal kar padhna.
4. Ikhfaa (chupaana) naak me awaaz chupa kar ghunna karna.

اظہار: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی (ء-ہ-ع-ح-غ-خ) میں سے کوئی حرف ہو تو اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا۔

Izhaar : Noon-e-saakin ya tanween ke baad huroof e halqi me se koi harf ho to izhaar hoga yani ghunna nahi hoga.

ادغام: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف (ی-ر-م-ل-و-ن) میں سے کوئی حرف آئے تو ل، ر میں بغیر غنہ کے اور باقی چاروں میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔

Idghaam : Noon-e-saakin ya tanween ke baad huroof (Yaa, Raa, Meem, Laam, Waao, Noon) me se koi harf aae to laam, raa me baghair ghunna ke aur baaqi chaaro me ghunna ke saath idghaam hoga.

نوٹ: سات جگہ یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا: صنوان، بنیان، قنوان، دنیا، یس، ن والقلم۔

Note: 7 jaga ye qaaeda laagu nahi hota: صنوان، بنیان، قنوان، دنیا، یس، ن والقلم۔

اقلاب: نون ساکن یا تنوین کے بعد "ب" آجائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ علامت کے طور پر چھوٹی میم بھی لکھی جاتی ہے۔

Iqlaab: noon-e-saakin ya tanween ke baad baa aajaae to noon-e-saakin aur tanween ko meem se badal kar ghunna ke saath padhte hain. Alaamat ke taur par chooti meem bhi likhi jaati hai.

اخفاء: نون ساکن یا تنوین کے بعد مندرجہ ذیل پندرہ حروف میں سے کوئی حرف آجائے تو نرم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔:

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ل

Ikhfaa: noon e saakin ya tanween ke baad mundarjazel 15 huroof me se koi harf aajaae to narm ghunna ke saath padhenge. Is ikhfaa ko ikhfaae haqeeqi kahte hain.

Meem e saakin ke teen haal:

میم ساکن کے تین حال:

1. **ادغام:** م ساکن کے بعد م آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔

1. Idghaam: meem saakin ke baad meem aae to dono ko mila kar ghunna ke saath ada karenge. Isko idghaam-e-shafawi kahte hain.

2. **اخفاء:** م ساکن کے بعد ب آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء کریں گے۔ اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔

2. Ikhfaa: Meem-e-saakin ke baad baa aae to ghunna ke saath ikhfaa karenge. Isko ikhfaa-e-shafawi kahte hain.

3. **اظہار:** م ساکن کے بعد م اور ب کے علاوہ کوئی بھی حرف آجائے تو وہاں اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔

3. Izhaar: Meem saakin ke baad meem aur baa ke alaawa koi bhi harf aajae to wahaa izhaar hoga yaani ghunna nahi hoga. Isko izhaar-e-shafawi kahte hain.

نوٹ: میم مشدد پر بھی غنہ ہوگا۔

Note: Meem-e-mushaddad par bhi ghunna hoga.

راء چار صورتوں میں موٹا پڑھا جاتا ہے:

- 1- راء کے اوپر زبر ہو
- 2- راء کے اوپر پیش ہو
- 3- راء درمیان میں ہو
- 4- راء آخر میں ہو تو موٹا پڑھا جائے گا۔

Raa 4 soorto me mota padha jaata hai:

1. Raa ke oopar zabar ho
2. Raa ke oopar pesh ho
3. Raa darmiyaan me ho
4. Raa aakhir me ho to mota padha jaaega.

راء دو صورتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے:

- 1- راء کے نیچے زیر ہو،
- 2- راء شروع میں ہو اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو باریک پڑھا جائے گا۔ (رَجَالٌ)

Raa do soorto me baareek padha jaata hai:

1. Raa ke niche zer ho
2. Raa shuru me ho aur uske oopar koi bhi harkat ho to baareek padha jaaega.

تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔

Tashdeed waale harf ko mushaddad kahte hain.

تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ پہلے حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود۔

Tashdeed waale harf ko do martaba padha jaata hai. Pahli martaba pahle harf se mila kar aur doosri martaba khud.

تشدید والے حرف سے پہلے جزم والے حرف کو اکثر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے (مِنْ رَبِّكَ)

Tashdeed waale harf se pahle jazam waale harf ko aksar chod dete hai.

اگر لفظ اللہ کے ”ل“ سے پہلے زیر ہو تو ”ل“ یعنی لفظ اللہ باریک ہو گا۔ جیسے ”بِسْمِ اللّٰهِ“ اور اگر ”ل“ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ”ل“ یعنی لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا جیسے: (عَبْدُ اللّٰهِ) یا (وَكَانَ اللّٰهُ)۔

Agar lafz Allaah ke laam se pahle zer ho to laam yaani lafz Allaah baareek hoga, jaise: lillaah. Aur agar laam se pahle zabar ya pesh ho to laam yaani lafz Allaah mota padha jaaega jaise: Abdallah ya nasrullah.

وقف کا معنی ہے ٹھہرنا۔ کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس لینے کے لیے ٹھہرنا۔

Waqf ka maana hai taherna. Kalme ke aakhri harf ko saakin karte hue saans lene ke liye taherna.

جب کسی جمائے پر وقف کرنا ہو تو

- i. سب سے آخری حرف اگر ساکن نہ ہو تو ساکن کر دیں۔
- ii. آواز اور سانس دونوں کو ختم کرویں۔
- iii. گول 'ة' پر جب وقف کریں گے تو وہاں 'ھ' پڑھی جائے گی۔
- iv. زبر کی تنوین پر جب وقف ہو گا تو وہاں الف پڑھا جائے گا۔ بشرطیکہ 'ة' گول نہ ہو۔

Jab kisi jumle par waqf karna ho to:

- i. Sabse aakhri harf agar saakin na ho to saakin kardein.
- ii. Awaaz aur saans dono khatam kardein.
- iii. Gol taa par jab waqf karenge to wahaa haa padhi jaaegi.
- iv. Zabar ki tanween par jab waqf hoga to wahaa alif padha jaaega bashart ye ke taa gol na ho.

Rumooz Auqaaf

Waqf ki alaamaat ko rumooz-e-auqaaf kahte hai, jo mundarja zel hain:

O – Ye aayat ki alaamat hai, ise waqf-e-taam bhi kahte hain, ispar taherna chahiye.

MEEM – Ye waqf laazim ki alaamat hai, is par zaroor taherna chahiye.

TAA – Ye waqf mutlaq ki alamat hai ispar taherna chahiye laikin ye alamat waha hoti hai jahaa baat poori nahi hoti. Abhi kahne waala kuch aur kahna chahta hai.

JEEM – ye waqf-e-jaez ki alamat hai, yaha taherna behtar hai aur na taherna jaez hai.

ZAA – ye waqf-e-jaez mujawwaz ki alamat hai, yaha taherna behtar hai.

رموز اوقاف (Punctuation)

وقف کی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ جو مندرجہ ذیل ہیں:

O – یہ آیت کی علامت ہے اسے وقف تام بھی کہتے ہیں۔ اس پر ٹھہرنا چاہیے۔

م – یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔

ط – یہ وقف مطلق کی علامت ہے اس پر ٹھہرنا چاہیے لیکن یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں بات پوری نہیں ہوتی۔ ابھی کہنے والا کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔

ج – یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔

ز – یہ وقف جائز مجوز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔

SAAD – ye waqf e murakhas ki alamat hai. Yaha mila kar padhna chahiye. Laikin agar koi thak kar taheer jaae to ijazat hai.

ALWASL AULAA - ka ikhtisaar hai, yaha mila kar padhna bahtar hai.

QAAF – ye qeela alaihil waqf ka mukhaffaf hai. Yaha taherna nahi chahiye.

QAD YUSAL - Ka mukhaffaf hai, Yaha taherna aur na taherna dono jaez hain. Laikin taherna bahtar hai.

QIF - Jiske maana hain taheer jaaao, ye alamat wahaa aati hai jahaa padhne waala milakar padhna chahta hai. Yaha taherna chahiye.

SEEN YA SAKTA - Yaha is tarah taherna chahiye ke saans tootne na paae.

ص - یہ وقف مرخص کی علامت ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو اجازت ہے۔

صلے - یہ الوصل اولی کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔

ق - یہ قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے۔ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔

صل - یہ قدیو صل کا مخفف ہے۔ یہاں ٹھہرنا نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔

قف - یہ لفظ قف ہے۔ جس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ۔ یہ علامت وہاں آتی ہے جہاں پڑھنے والا ملا کر پڑھنا چاہتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔

س یا سکتہ - یہ سکتے کی علامت ہے۔ یہاں اس طرح ٹھہرنا چاہیے کہ سانس ٹوٹنے نہ پائے۔

WAQFA – Ye lambe sakte ki alamat hai, yaha sakte se zyada taherna chahiye laikin saans todna nahi chahiye, sakte aur waqfe me farq ye hai ke sakte me kam taherna hota hai.

وقفہ - یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے سے زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس توڑنا نہیں چاہیے، سکتے اور وقفے میں فرق یہ ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے۔

LAA – laa ke maana nahi ke hain, ye alamat kabhi aayat ke oopar aati hai aur kabhi aayat ke darmiyaan me aajati hai. Agar aayat ke oopar ho to chaahe tahrein chaahe na tahrein dono jaez hain. Liakin jahaa ye alamat aayat ke darmiyan me akeli aajae wahaa hargiz nahi taherna chahiye.

لا - لا کے معنی "نہیں" کے ہیں، یہ علامت کبھی آیت کے اوپر آتی ہے اور کبھی آیت کے درمیان میں آجاتی ہے۔ اگر آیت کے اوپر ہو تو چاہے ٹھہریں چاہے نہ ٹھہریں دونوں جائز ہیں۔ لیکن جہاں یہ علامت آیت کے درمیان میں آکیلی آجائے وہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔



ASK ISLAM PEDIA
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

AIP ACADEMIC WING

ABOUT ISLAMIC STUDIES SYLLABUS

METHOD & PATTERN

This syllabus is designed keeping in mind the need of Islamic Studies as a subject for Indian secular schools and the step by step development of Islamic knowledge in children during their schooling starting from age 4 onwards.

MORAL VALUES

In sha 'Allaah, this syllabus will be a powerful tool in creating a healthy environment which is the key to learn Islamic teachings and development of moral values & character.

In sha' Allaah with this series the following departments & people can benefit

1. This book is useful not only for children but for everyone who wants to start learning Islam.
2. It is also beneficial for Doctors who want to lead & spread a healthy life style in the light of teachings of Prophet Mohammad ﷺ
3. This book is very beneficial for teachers who want to teach the children Islamic manners during their lessons.
4. This book is useful for those scholars & the callers of Islam who are habituated to give references, because this book has the basic teachings with all the quotations & references.
5. This book is good for social workers as well who want to improve the society with the teachings of beloved Prophet Mohammad ﷺ
6. This book is also important for Police & Lawyers who want to stop crime and maintain peace in the society. The best way to do that is to spread these Islamic teachings in people.
7. The elderly people who have not yet started to learn but plan to begin after retirement then this book is very useful for them.
8. It is useful for research scholars who work on children's development.
9. It is useful for psychologists who study child's psychology.
10. Director of educational institutes & schools and supervisors at Mosques who conduct evening & weekend Islamic classes for children can use this series as syllabus.
11. This can be used as a syllabus in the Contemporary Islamic Schools according to the age group.
12. This series can be used for the evening or weekend classes in the conventional secular schools.
13. It is very useful for Islamic Schools also.
14. It can be used by the speakers/orators for their public talks.
15. For personal use by the Mothers & for their children at home.
16. For elders of the home like Grandfather & Grandmother who want to teach their grand children.
17. Insha'Allah this book will be beneficial & effective for every person

Publisher & Printer

ABM Print Time

+91-99890 22928

abm.printtime@gmail.com

www.abmqurannotes.com

For Details Contact

Br. Mansoor

+91-93909 93901

mansoor.dawah@gmail.com

www.askislampedia.com

www.askmadani.com

SHAIKH ARSHAD BASHEER UMARI MADANI

Hafiz, Alim, Fazil (Madina University, K.S.A) M.B.A.

Founder & Director of AskIslamPedia.com, Chairman - Ocean The ABM School, Hyd.

+91 92906 21633 (WhatsApp Only)